

# IKUR'AN EYINGCWELE

INCAZELO  
YAMA VESI AKHETHIWE  
NGESI ZULU

ترجمة معاني  
آيات مختارة من القرآن الكريم

# الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ

بلغة الزولو



Conveying Islamic Message Society

P.O.Box 834 - Alex - Egypt

E-Mail:info\_en@islamic-message.net

E-Mail:cims\_eg@yahoo.com

Site: www.islamic-message.net

نَهْجُ الْمَلَائِكَ

طبعة خاصة بجمعية تبليغ الإسلام

Not for sale

بَلْ وَ لَا بَاعَ

ترجمة  
معاني آيات نجتاجة ونَ

الْقِرْآنُ الْكَرِيمُ

بلغةِ الزُّوْلُ

---

# Meanings of Selected Verses of The Quran


In The Zulu Language

---

## IKURAN EYINGCWELE

INCAZELO  
YAMA VESI AKHETHIWE  
NGESI ZULU

لَا يَنْهَا نَزْلَةُ الْذِكْرِ وَنَفْلَةُ الْحَضْرِ



Lama vesi akhetiwe kwi Koran engewe  
nencazelo yawo abhalwe ngesicelo esivele  
kumakekeli wama mosque amabili angewe  
Inkosi U FAHD BN ABUL AZIZ umndeni ka  
SAUD . Inkosi yase SAUDI ARABIA


لَا يَنْهَا نَزْلَةُ الْذِكْرِ وَنَفْلَةُ الْحَضْرِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



U Didiyelo lwe NKOSI u FAHD  
loku shicilela kwe Koran engcwele.

هَذِهِ الْآيَاتُ الْمُخْتَارَةُ مِنَ الْمُصْحَّفِ السَّرِيفِ وَ تَرْجِمَةً مَعَانِيهَا  
هَدِيَّةً مِنْ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ الْمَلَكِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ آلِ سُعُود

شَوَّعْ مَجَانًا



Ikhishwa Mahhala

Lama vesi akhethiwe encwadini eyingcwele  
nezincazelo zaho kuyisipho esiphuma kumnakekeli wama mosque  
amabili angcwele inkosi u Fahd bn Abdul Aziz Al-Saud

ترجمة معاني آيات مختارة من

القرآن الكريم

بلغة الزولو

ترجمتها

عمر موليليكي

I KUR'AN EYINGCWELE

INCAZELO  
YAMA VESI AKHETHIWE  
NGESI ZULU

ICHAZWE NGU

UMAR MOLELEKI

U Didiyelo Iwe NKOSI u FAHD

loku shicilela kwe Koran engcwele.

Madinah munawarah Kingdom of SAUDI ARABIA



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مقدمة

بقلم معالي الشيخ : صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ  
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  
الشرف العام على الجمع

الحمد لله رب العالمين ، القائل في كتابه الكريم :  
«... قَدْحَاءَ كُلِّ مِنْ أَنَّهُ تُورٌ وَكَتَبٌ مُبِّرٌ ».  
والصلة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، القائل :  
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه». .  
أما بعد :

إنفاذًا للتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله بالعنابة بكتاب الله ، العمل على تيسير نشره ، وتوزيعه بين المسلمين ، في مشارق الأرض ومغاربها ، وتفسيره ، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم .  
وإيامنا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم ، إلى جميع لغات العالم المهمة ، تسهيلاً لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية ، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله ﷺ : «بلغوا عنى ولو آية» .  
وخدمة لإخواننا الناطقين بلغة الرولو ، يطيب لجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة لمعاني آيات مختارة من القرآن الكريم بلغة الرولو ، التي قام بها الشيخ عمر موليليكي ، وراجعها من قبل الجميع كل من : الشيخ جميل كوبس ، والشيخ إسماعيل كمانا .  
ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هذا العمل العظيم ، الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الناس .

إننا لندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم ، مهما بلغت دقتها ، ستكون قاصرة عن أداء المعاني العظيمة التي يدل عليها الصوت القرآني المعجز ، وأن المعاني التي تؤديها الترجمة إنما هي حوصلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم ، وأنه يعتريه ما يعتري عمل البشر كله من خطأ أو نقص .  
ومن ثم نرجو من كل قارئ لهذه الترجمة أن يوافي مجتمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية بما قد يجده فيها من خطأ أو نقص أو زيادة ، لـإفادـة من الاستدراكات في الطبعات القادمة إن شاء الله .

والله الموفق ، وهو الهادي إلى سواء السبيل ، اللهم تقبل منك أنت السميع العليم .

Egameni likaAllah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

## ISANDULELO

Ibhalwe o hlonishiwe u Shaikh Salih bn Abd al-'Aziz bn Muhammad Al ash-Shaikh unqonqoshe wezinqubo ze Islam neze Waqf, nokudlulisa (inkolo ka Allâh) nokucebisana, nongumhloli. We printing press.

Lonke udumo malube ku Allah inkosi yemihlabo othi encwadini yakhe eyingcwele: Ngempela unilethele ukukhanya olusuka ku Allah nencwadi ecacileyo (Kur'an eyingwele) nendumiso nokuthula kube kuye umprofethi u Muhammed (Uku thula kube naye) othi: abangcono pakathi kwenu ilabo aba funda i Kur'an bese beyifundisa.

Ekuqhubeni eminye yemibono omphathi wezinqubo zama mosque amabili angcwele: inkosi u Fahd bn Abdul Aziz (ingathi u Allah angamsikelela) ngoku nakekela incwadi ka Allah nokusebenza ekwenzeni udumolwayo lube lula, futhi nokunikeza ngayo emphakathini kanye noku yishintshela kwezinye izi limi futhi ngenxa yenklelo yenqonqoshe wezinqubo ze Islam neze Waqf nokudlulisa (inkolo ka Allah) nokocebisana ese Saudi Arabia e Madinah ekubalulekeni koku dlulisa incazelo ye Kor'an ngezilimi eziningi zezwe ikhona kuzo kubakhona ukuqonda kalula kulabo abangakhulumi isi-Arab. Futhiukugwalisekissa amazwi omprefethi (Uku thula kube naye) ethi (hambisa indaba yami noma kuyivesi eliodwa) nasekusizeni abafowethu abakhulumu isi Zulu.

I Printing Press yenkoski u Fahd bn Abdul Aziz (ingathi u Allah angamsikelela) e Madinah iyajabula ukudlulisa incazelo yamavesi akhethiwe asuka kwi Kor'an aye kumfundi ngolwimi lwesi Zulu.

Beku ngumsobenzi ka sh Omar Moleleki futhi iphindwe yahlolwa u sh Jamiel kobus no sh Ismail Gqamane ngokucelwa i Printing Press ye Kor'an e Madinah.

Sithanda ukubonga u Allah ophezulu kwakho konkengokusinika amandla ukufeza lezenzo ezinhle, futhi siyathemba loku kunga oku ka Allah ngempela futhi kube okokusiza abantu.

Siyaqonda futhi nokuthi incazelo ye Kor'an ngezinye izilimi angeke ukhone ukunikeza incazelo ephelele etholakala kwi Kor'an.

Siyathemba nokuthi wonke umfundi ofunda lencazelo uma ethola nomaliphi iphutha uzosazisa sizokhona ukuwalungisa ngokuzayo, Insha Allâh. O, Nkosi yethu! Amukela (lomsebenzi) wethu, ngempela Wena Uzwa konke, Wazi konke!



## **ISANDULELO**

**«O, NKOSI YETHU! SENZE SIBE NGAMA-MUSLIM  
(abathobela intando yaKho), NOZALO LWETHU LUBE  
YISIZWE ESIKUTHOBELAYO, FUTHI USIBONISE  
IZINDLELA ZETHU ZOKUKHONZA FUTHI  
USITHETHELELE, NGOBA NGEMPELA,  
NGUWENA WEDWA ONGUM THETHELELI,  
ONOMUSA.»**

**(Kur'an eyiNgewe 2:128)**

Lomkhuleko wenziwa nuguAbraham nendodana yakhe uIshmayeli (iNkosi Ibabusise), mhlazane bemisa izisekelo zendlu kaNkulunkulu (Bait-Ullah), lapho kutholakala khona idolobha laseMakkah namhlanje.

Uma kuhumushwa leligama lolimi lesiArab elithi: ISLAM, ngesiZulu lichaza UKUZINIKELA, NOKUTHOBELA uNkulunkulu (uMvelinqangi noma uAllah). Inkambiso yeISLAM eyasendulo, yashumayelwa abaProfethi neziThu-nywa zonke zikaNkulunkulu, cishe zibalelw ku 124,000 ngokusho kukaMuhammad (ukuthula kube kuye); futhi kuyiyona nkolo nendlela yokuziphilisa abayigqamisa igqug-quzelwa emikhakheni yonke ekuphileni kwabo; ukubhekana nayoyonke inhlobo yobubi kanye namasiko angahlangene noNkulunkulu esintwini sonke.

Inkambiso yeIslam isukela mhlazane uAdam enikezelwa imiyalo yiNkosi yakhe okumele ayigcine, kwehle njalo kuze kufike kum Profethi wokugcina uMuhammad (ukuthula kube kuye); welama uMesiya uJesu (iNkosi Imbusise) nge-minyaka engama 600. NjengoJesu (iNkosi Imbusise) owaye zogcwalisa okusemthethweni owembulwa ku Mose, yena uzogcwalisa okwasalela kuJesu (iNkosi Imbusise); futhi uzo-siholela kulo lonke iqiniso.

Inkolo yembulwa ngokuthi UKUZINIKELA NO-KUTHOBELA uNkulunkulu (ISLAM). Iyizimiso zemvelo njengoba yonke into yabakhona ngentando yaKhe. Bonke abaProFethi bezinhlanga ezahlukene, nabalandeli nozalo lwabo babezibiza ngokuthi bangama-MUSLIM;okungukuthi ABAZINIKELE NABATHOBELE UKWENZA INTANDO ENGCWELE KANKULUNKULU. Zonke ezinye izinhlelo zokholo zalihlamuka leligama, zaqembukelana zaseziqanjaw ngamagama abaholi noma izizwe ezithize, nobubi babazenzisi egameni lenkolo ethize: nabantu benkolo abasahlangani ba-vumelane ngelilodwa LOKUTHOBELA UNKULUNKULU YEDWA (ISLAM): sekukonke lokhu sekudide iningi maye-lana nenkolo emsulwa kaNkulunkulu (uAllah). Ukuthi un-gumJuda, umArab, noma umhlobo muni akubalulekile; kumele uzinikele kuNkulunkulu uSomandla (uAllah).

UAllah Uthi ngombhalo weKur'an eyiNgcwele:

**ANOTHI: SIYAKHOLWA KU-ALLAH, NAKULOKHO  
ESIKWEMBULELWE, NALOKHO OKWEMBULWA  
KU-ABRAHAM, NO-ISHMAYELI, NO-ISAKA,  
NO-JAKOBE, NASEZIZWENI, NALOKHO  
OKWEMBULWA KU-MOSE, NO-JESU NAKWABANYE  
ABAPROFETHI KUVELA ENKOSINI YABO:  
ASIBANDLULULI NOYEDWA PHAKATHI KWABO,  
FUTHI SIZINIKELE KUYENA (U-ALLAH) KUPHELA  
(SINGAMA-MUSLIM)»                   (I-Kur'an eyiNgcwele 2:136)**

USomandla Ubuye Afakaze Athi:

**UMA KUKHONA OFUNA ENYE INKOLO  
NGAPHANDLE KWE-ISLAM, INGEZE  
YEMUKELEKA KUYENA; FUTHI KWELIZAYO  
UZOBA KANYE NALABO ABALAHLEKELWAYO.  
(I-Kur'an eyiNgcwele 3:85)**

U-Allah Ufakaza ngokupheleliswa kwe-Kur'an, kanye nokulungisiswa kokholo; Uthi:

**NAMHLANJE NGINILUNGISISELE UKHOLO  
LWENU, NGAPHELELISA UMUSA WAMI  
KININA, FUTHI NGASE NGINIKHETHELA  
I-SLAM YAYINKOLO YENU.  
(I-Kur'an eyiNgcwele 5:4).**

IKur'an eNgcwele yagcwaliseka kumProfethi oNgcwele uMuhammad (ukuthula kube kuye) ngalo lelivesi elingasenhla.

Lelivesi lembulwa zingu 9 kuZil-Hajj (inyanga ka-12 ekhalendeni yamaMuslim) onyakeni weshumi wokufuduka, ngesikhathi sohambo lomProfethi lokugcina oluya emcimbini okuthiwa yiHajj (ukuambela umuzi oNgcwele), leyo Hajj kuthiwa wavalelisa ngayo.

UmProfethi oNgcwele (ukuthula kube kuye) waphila cishe izinsuku ezingu 88 kuphela emuva kokwembulwa kwalelivesi; okwaba yisiphetho somsebenzi wakhe njengesi Thunywa esikhathini esaba yiminyaka engu-23.

**IZIMFUNDISO ZE-ISLAM NGAMAFUPHI.**

Izimfundiso ze-Islam zinokubalwa ngaphansi kwezihloko ezinhlanu:

(1) Ukholo kuNkulunkulu Oyedwa vo (2) Ukukhonza Yena yedwa. (3) Ukuphilisana kahle nabanye abantu (4) Ukuziphatha kahle komphakathi (5) Ukugqugquzelwa kwe-similo nomthetho.

**UKWAMUKELA UKHOLO LOBU-ISLAM**

Umuntu ofuna ukwamukela ukholo lobu-Islam, kudingeka ukuthi akholwe yilezimiso ezilandelayo Zokholo; (1) U-Allah (uNkulunkulu uSomandla) (2) Izingelosi (3) Zonke iziNcwadi eziNgcwele ezembuliwe (4) Bonke abaProfethi abaNgcwele (5) Usuku Lwesiphetho (6) Ulwazi lukaNkulunkulu olwandulela izenzo ezinhle noma ezimbi (7) Usuku Lokuvuka Kwabafileyo.

Emuva kwalokhu kufanele umuntu avume ukholo phambi kofakazi, kusukela kwabathathu kuya phezulu abasenkolweni ye-Islam, ngokusho lamazwi ngolimi lesiArab athi: La ilaha il lAllahu, Muhammad ur RasulUllah. Okusho ukuthi akekho uNkulunkulu, ngaphandle kuka-Allah (uNkulunkulu uSomandla), uMuhammad uyisiThunywa sikaAllah.

Emuva kokungena ebandleni lobu-Islam, umuntu kufanele ukuthi enze imikhuleko yakhe kahlanu ngelanga, ngesiArab ibizwa ngokuthi SWALAH. Owokuqala (1) I-FAJR (umthandazo wasekuseni owenziwa emuva kokusa ngaphambi kokuphuma kwelanga); (2) I-ZUHUR (umthandazo owenziwa kusukela imizuzu iyishumi ilanga lisukile enhloko, emini yantambama; (3) I-ASR (wenziwa selimathunzi, ihora elilodwa nenxenyne ngaphambi kokushona kwalanga; (4) I-MAGHRIB (yenziwa imizuzu emithathu ilanga selishonile); (5) I-ISHA (yenziwa emuva kwehora nenxenyne ilanga selishonile).

Lemithandazo emihlanu yansuku zonke iphoqelekile kuwo amaMuslim esilisa nawesifazane asethombile.

Okwesibili kudingeka ukuthi amaMuslim azile ukudla namanzi, kusuka kuse mphondozankomo lize liyoshona, inyanga yonke kaRamadhan, okuyinyanga ka-9 ekhalendeni yamaMuslim.

Okwesithathu umuntu kudingeke ukuthi anikele kwa-bampofu nabasweleyo, okubili nenxenyne ekhulwini ( $2\frac{1}{2}\%$ ) empahleni yakhe. Nasi isilinganiso esingase sithathele kuso, u  $2\frac{1}{2}\%$  ungalinganiswa nama-awunzi angu-21 esiliva (21 oz) noma ama-awunsi angu 3 (3 oz) egolide noma imali elingene nalokhu umhwebo uma ungasawudingi, futhi uma sewedlulile unyaka owodwa unalezimpahla ezibalwe ngenhla. Lomnikelo kuthiwa yi-Zakat.

Okwesine kufanele ukuthi umuntu athathe uhambo oluya emzini oNgewe eMakkah, uma nje enamandla okuya



nokubuya, nawokondla izingane nomkakhe uma besele ekhaya. Loluhambo kuthiwa yiHajj.

Lokhu kokuhlanu, ukuvuma ukholo nemithetho emine eyisibopho yobuIslam kuthiwa yizinsika ezinhlanu ze-Islam noma izisekelo zobu-Islam okuzimelele kuzo sonke isakhiwo senkolo ye-Islam.

### **EZINYE IZENZO EZINHLE**

Ngaphandle kwezimiso eziphoqelekile i-Islam ifundisa ukuthi kuhlonishwe abazali, abafundisayo, abantu abadala nalabo abasezikhundleni, ukuhlalisana kahle nomakhelwane, ukwenza ukulunga emphakathini, ukwethembeka eku-phathaneni, ukufeza nokugcina izethembiso nezivumelwano, ukufunda ulwazi oluwsizo kumuntu kulomhlaba nakweLi-zayo, ukusebenza ukuze umuntu akwazi ukuziphilisa ngendlela esemthethweni, yena nomkakhe kanye nabantwana bakhe, ukunakekela izintandane, ukondla nokugqokisa abampofu, ukulayela okulungile ukwenqabela okungalungile, nezinye izenzo eziningi kakhulu ukuthi zingabhalwa.

### **IZENZO EZENQATSHELWE**

I-Islam ayihambisani neze nezinto eziphambene nokholo kuNkulunkulu, neziThunywa zonke zaKhe, futhi ayihambisani nokungagcini imithetho neziyalo zikaNkulunkulu (uAllah). Ukubhangqanisa uNkulunkulu nezithixo, ukuzibulala nokubulala abanye ngenhoso, ukufeba nokuphinga, ukweba, ukugebenga, ukuphangha izinto zabanye, ukulinganisa ngokungaphansi kwesilinganiso, izidakamizwa, ukubhejelana ngemali, ukuqamba amanga, ukukholelwa ezinkanyezini noma okushiwu abantu ababhuwayo nabahlo-layo, ukuthwala izindaba ezixabanisayo, ukuhleba, ukuziqhayisa, ukudansa nemiculo ehlambalazayo, ukuveza izitho zomzimba okudingeke zimbozwe, ukubolekisa ngemali ngoba uhlose ukuyizalisa, Kuphoqelekile kwabesilisa ukuthi bembese imizimba yabo ukusuka enkaben ikuze kufike ngezansi kwamadol, abesifazane bona bamboze wonke

umzimba, ngaphandle kobuso nezandla zabo ngezansi kwezihlakala, nezinyawo ngaphansi kwamaqakala. Akufanele futhi amaMuslim asebenzise inhlamba, nokuthi afunde noma enze imilingo nokulumba, nokunye okuningi okungatholwa ezincwadini ezethembekile zenkolo.

### ISANDULELO NGE-KUR'AN

Kuningi esingakusho ngeKur'an kepha kuleliphepha kungeneli, ngamasuphi singathi: I Kur'an eyiNgcwele iyiNcwadi yezaluleko, yokujula ngolwazi lwezinto zonke, enobuhlakani kanye nobulungiswa.

Iqukethe izindaba ezimnandi zempumelelo lapha nakweLizayo, nobudlelwano kubantu obuphelelisiwe.

IyiNcwadi yokwetshisa okwaba yisiphetho mayelana nezizwe esezadlula, futhi ibe iyisifundo ngekusasa.

IyiNcwadi eNgcwele ekubonisa uMthetho kaNkulunkulu (uAllah), futhi ikulandisa ngemikhuba yabantu ephambene nentando eNgcwele kaNkulunkulu (uAllah). Ingumlando ngezehlakalo esikhathini esesadlula noma esizayo.

Ukuyiqonda iKur'an yisisekelo somuntu esinamandla kanye nokuphelelisa kanti ngaphandle kokuqonda leNcwadi, singeze sathola ukuphelelisa ngokuba kungalentunja engaphezu kwezinto zomhlaba engenza lowo abone izigaba nomumo womuntu ezidalweni zonke kanye nenhoso yequiniso nenjongo yomusa wokudalwa kwakhe, futhi akwazi ukuyizuza.

Ngokwequiniso iKur'an eyiNgcwele ingasiza kuphela uma imiyalelo ekuyo ibusa imikhakha yonke yokuphila kwethu njengomphakathi. Kungenjalo, emphakathini onabantu abangakwazi ukujwayelana nezisekelo nemiyalo kaNkulunkulu ekuKur'an, kepha begculisekile-nje kuphela yisimo abasibonayo ngaphandle; nangendlela amazwi eNcwadi ahleleke ngayo, kanye nokubhalwa kwawo, futhi begcina

leNcwadi eyigugu ikude nempilo yabo, nomphakathi, nezombuso, kanye nempilo yeminden'i yabo, ayisoze yaphelelisa indima yokukhanya ekuyo.

Ngakho-ke okuyiwona msebenzi wethu omkhulukazi ukuqonda iziyalo emikhakheni yonke yokuphila kwethu elotshwe kuKur'an ukuze impilo yethu yonke ingene ngokomthetho, ifakwe ngokwethembeka nokuvumelana nokulunga, ngalendlela singase sikhawazi ukusebenzela isintu sithuthukise umsebenzi oNgcwele.

Ingempela iKur'an eNgcwele ingeze yahumushwa, lokhu ngumzano nje. Ayisoze yafaniswa nciamashi neKur'an ngolimi lesiArab, lapho ihaywa ngolimi eyembulwa ngalo, iletha injabulo enhliziyweni kanye nezinyembezi, ibangelwa yisigqi nomsindo wezinhlamvu ezithile namaphimbo avumelanayo, kungathi yinkondlo noma umculo, kanti cha! AMAZWI KANKULUNKULU USOMANDLA (u-AL-LAH). Injalo-ke iKur'an ngolimi lesiArab, izikhathi eziningi igama eliodwa linokuchazeka ngezindlela eziningi. NgesiZulu nangezinye izilimi ungeze incwadi wenza imumathe wonke umqondo nejngoba unjalo.

### **UMLANDO NGE-KUR'AN EYINGCWELE**

I Kur'an eNgcwele, yigama lombhalo wokugcina oNgcwele owembulwa kumProfethi wokugcina we-Islam UMuhammad (ukuthula kube kuye). Yembulwa yaphelelisa kuye esikhathini esiyiminyaka engamashumi amabili anantathu.

U-Aysha umkamProfethi (ukuthula kube kuye) ubika ukuthi isimo sesambulo sokuqala kumProfethi oNgcwele (u.k.k.), kwaba yimibono yeqiniso. Akazange abenamaphupho, kepha kwakungathi ubona ukukhanya okuthobile kokusa. Emuva kwalokho wayesevama ukuhlala yedwa ezahlukanisa nabanye abantu njalo; aye emhumeni osentabeni iHira eseMakkah, lapho wayehlala inyanga yonke kaRamadhan okuyinyanga yokuzila, azile, akhonze ubusuku

ngobusuku, ngaphambi kokuba abuyele emndenini wakhe ukuze athole ukudla; ehlizkele injongo ngemibono yakhe. Wayephindela kumkakhe uKhadijah esikhathini esifanayo, kwaze kwaba yilapho iQiniso lifika kuye, lapho esemhumeni waseHira.

Kwafika kuye ingelosi enkulu uGabriyeli (u.k.k.) yathi: «Funda (lokhu)». Waphendula wathi: «Angifundile». Uthi uMprofethi oNgcwele (ukuthula kube kuye): «U-Gabriyeli wayesengibamba engisondeza kuye ngamandla engicindezela, ngaze ngacindezeleka kanzima; emuva kwalokho wangidedela wabesethi»: «Funda (lokhu)» mina ngaphendula ngokuthi: «Angifundile! Wayesengibamba futhi wangicindezela okwesibili ngaze ngacindezeleka kanzima, wabe esengidedela wathi: «Funda (lokhu)!». Ngaphendula ngathi: «Angifundile!» Wabe esengicindezela okwesithathu, ngaze ngacindezeleka kanzima, wangidedela wathi: «Funda egameni leNkosi yakho leyo Edalile; Edale umuntu ngehluli legazi. Funda, futhi iNkosi yakho iyaphana kakhulu, Iyona eyafundisa (ngokuset-shenziswa) kosiba lokubhala. Yafundisa umuntu lokho ayengakwazi». (Lamazwi aku-Surah 96:1-5).

UmProfethi wabe eseyasihaya lesambulo, wabe esephindela naso ekhaya ethuthumela. Waya kumkakhe uKhadijah wafike wathi kuye: «Ngembathise!» Bamembathisa kwaze kwaba yilapho kuphela khona ukwesaba kuye. Wabe esemxoxela umkakhe uKhadijah lesigigaba, ethi: «Ngesabela impilo yami!» Waphendula uKhadijah wathi: «Lutho! Ngifunga ngoAllah ukuthi akasoze akujabhiswa. Ngo-Allah uhlanganisa ubudlelwane, ukhuluma iqiniso, uthwala imithwalo yabantu, welekelela abaswele, uphatha kahle izihambi, futhi welekelela futhi ulwa nokujikajika kwesimo esibaphethe kabi abanye abantu».

UKhadijah wabe esemthatha emyisa kuWaraka kaNawfal kaAsad kaAbdul Uzza, owaye yindodana yomfowabo kaKhadijah, futhi engumuntu owaye mukele

ubuKrestu ngezikhathi zobumnyama (ngaphambi kokukhanya kweIslam) Waye vamise ukubhala incwadi ngesiHeberu, ngakho-ke waye bhala ivangeli ngesiHeberu kunoma yini uNkulunkulu ayefisa ukuthi akubhale khona; Wayesekhulile impela, futhi engasaboni kahle emehlwani. UKhadijah wathi kuye: «O, mzala wami! Lalela lokho okushiwo yindodana yomfowenu». U-Waraka kaNawfal wathi: «O, mshana wami! Kungabe ubonani na?» IsiThunywa sikaAllah saphendula sasho loko esasikubonile, wabe esethi uWaraka: «Yiyo lengilosи eyathunywa nguNkulunkulu (uAllah) kuMose. Ngifisa ukuthi bengiseyinsizwa. Ngifisa ukuthi bengisazobe ngiphila lapho abantu bakini bekudingisa». IsiThunywa sikaAllah sathi: «Bazongidingisa yini na?» UWaraka waphendula wathi: «Yebo. Akukaze kufike muntu eza nalokho okulethile wangahlangana nobutha. Uma kwenzeka ngilubona usuku lwakho ngizokulekelela ngenhliziyo yami yonkel!»

Lokhu kuphetha indaba ende eyaxoxwa nguAysha, echaza ngokuphelele ukuthi isambulo sokuqala safika kanjani kumProfethi oNgewe uMuhammad (ukuthula kube kuye) emhumeni waseHira, kwembulwa kuye amavesi amahlanu esahluko 96.

UJabir kaAbdullah Ansari (owaye ngumfundи wesiThunywa sikaAllah), ubika ukuthi isiThunywa sikaAllah (uku-thula kube kuso) saxoxa ngemuva kwesikhathi eside sithole isambule sokuqala sathi: «Ngenkathi ngihamba ngezwa izwi livela ezulwini, lapho ngiphenduka ngibheka phezulu, ngabona ingelosi eyabe ifike kimi eHira, ihlezi esihlalweni sobukhosи phakathi kwezulu nomhlaba. Ngathuthumela wuvalo ngaphindela ekhaya, ngafike (ngalala) ngathi (kumkami): «Ngembathise, ngembathise!» ngakho-ke base bengembathisa. U-Allah Ophakeme kunakho konke Wembula lelivesi:

**WENA OZIGUBUZELE PHAKAMA  
UDLULISELE IZEXWAYISO, NENKOSI  
YAKHO UYIDUMISE. FUTHI**

## **NEZAMBATHO ZAKHO UZIGCINE**

### **ZIHLANZEKILE!**

**(Kur'an eyiNgcwele 74:1-4)**

Emuva kwalokhu waqhubeka ethola izambulo njalo kwaze kwaphela iminyaka engamashumi amabili nantathu.

### **UKUQIKELELWA KWE-KUR'AN ENGCWELE**

Omunye umsebenzi womProfethi oNgcwele (ukuthula kube kuye) kwakungukufundisa abantu amavesi eKur'an eNgcwele emuva nje kokwambulwa Kwawo kuye.

Amavesi ayembulwa ngokuhambelana nezidingo ezithile zomphakathi; yena abe esewadlulisela kulabo abangabafundi bakhe, bawagcine ezinhliziyeni, babuye bayale ababekwazi ukubhala ukuthi bawabhale phansi, abuye afundelwe umProfethi ukuze kutholakale ukuthi abhaleke ngakho na? Ayebhalwa emahlamvini esundu, noma emathanjeni eziphanga zamakameli, nasezikhumbeni.

iKur'an ayizange yembulwe ngohlelo ehlewe ngalo eNcwadini iKur'an eNgcwele, kepha kuleso naleso sambulo umProfethi oNgcwele wayalwa nguSomandla ukuthi awahlele kanjani amavesi encwadini. Esikhathini esiyiminyaka engu-23 iKur'an yembulwa ikulesisimo eyiso namuhla, namakhulu-abafundi bomProfethi oNgcwele ayeyazi ngekhanda, ngesikhathi sokuphila kwakhe. Nanamhlanje emazweni amanangi anamaMuslim, yaziwa yizinkulungwane ngezinkulungwane ngekhanda, kakhulukazi ngolimi eyambulwa ngalo lesiArab.

Amavesi kanye nezahluko (surah) zonke zazembulwa kumProfethi oNgcwele, zilondolozwe emqondweni wakhe nguSomandla, ngokuhambelana naye nangendlela yokuthi zingamphunyuki futhi angazikhohlwa.

Emuva kokukhethama komProfethi (ukuthula kube kuye), uKhalif Abu Bakar owabamba izintambo zombuso ngemva komProfethi, wayala ukuthi iKur'an ecubunguliwe

iqokelelwe ibe yincwadi njengoba itholakala namhlanje nan-jengoba yayaziwa ngalezozinsuku. Ngesikhathi sekubusa uKhalif Usman owaba ngumbusi wesine ngemuva komProfethi, kwensiwa amaKur'an amane afana neKur'an yokuqala, leyo naleyo yathunyelwa emizini emikhulu yendawo; eMakkah, Madina, Basra naseKufa, ukuze kuthi ngesikhathi esizayo izincwadi ezifana nciamashi nalezi zenziwe kusukela kulezi ezingumsuka.

IKur'an engumsuka eyayilotshwe yisandla sikaKhalif Usman, ayeyifunda ngesikhathi ebulawa ngamambuka isalondoloziwe namanje eGibithe.

## **UKUFIKA KUKA-MUHAMMAD NOKUKHANYA KWE-ISLAM**

### **Echophelweni lokuqhamuka kwe-Islam.**

Esikhathini sobumnyama emlandweni, lapho kwa-kungekho lutho ngaphandle kokubhubhisa, ububi nethunzi elimnyama selisibekele lokho okuhle ngisho nokukhanya okwakusezweni; lapho ukucindezelwa nokusetshenziswa kwabantu ababuthaka ngendlela yokubadicilela phansi, sekubusa ilungelo lamandla; lapho amalungelo omunye umuntu engasaziwa, nalapho ukukholelwa ezintweni ezingekho namasiko ayinjabulo yenyama edlangile ezindaweni ezingeni: kwazalwa uMuhammad umProfethi we-Islam (ukuthula kube kuye) kungumsombuluko zingu 12 ku-Rabal-Awwal (okungahambelana nomhlaka 20 August 570 A.D. ngemuva kukaKrestu), edolobheni laseMakkah ezweni eli-wugadule eArabiya.

Kusukela ezikhathini eziphambili impela, abantu baseArabiya babehlukaniswe izigaba ezimbili, umphakathi oqoqelene ndawonye emadolobheni, kanye nomphakathi ohlezi ngokugqagqana emaphandleni (babizwa ngokuthi amaBadawin). Ababesemadolobheni amakhulu ikakhulu lawo angaseNingizimu yeArabiya, base bephakeme babaluleka kakhulu njengabantu abasebenzisa ulwandle behlanganisa elaseNdiya kanye neAfrica. Eceleni kwemigudu yohwebo

ukuya ngasenyakatho kwavumbuka amadolobha amabili amakhulu enedumela futhi elikhulu iPetra nePalmrya. Abantu ababehlala kulendawa abakwazanga nabo ukugwema impilo uwonke wonke ayegxile kuyo. Uphuzo, ukubhejelana ngemali, ukugqilaza nokunye ukukhohlakala nobuthakathaka emphakathini kwase kuyehlisile impilo yabantu kulemizi emikhulu; kanjalo nokuntuleka kokuphathwa kwamandla ombuso, okuyinto eseqoka, kwase kunokudideka okukhulu kabantu.

Kulabo ababehlala emaphandleni amaBadawin, inquebekela phambili yayingasekho sebemindawonye. Ukuzophilisa kwabo kwase kuzimele ekufuyeni amakamelis nezimvu; babefuya amahashi ngaphandle kwempumelelo, bezingela babuye bahlasele. Babehlala ngokuzulazula befuna amadlelo, besuka kulendawo baye kwenye indawo, bephila ngokudela imiphefumulo yabo.

Ukuze basinde ezitheni zabo kwakungenxa yokushesha nokuqunga kwabo isibindi ngokubhekana nempilo enzima ebazungezile, benobuchwepheshe bokuzenzela izinto, bebambelele empilweni yabo, futhi bebekezelia.

IBadawin lalihlala ematendeni njengoba lisenza namanje. Lelo nalelo tende limele umndeni, kuthi leyo naleyo nkambi imele isizwana esithile. Umgwamanda wesizwana sasizakha sibe yisizwe esikhulu. Yize kwakukhona ukwethembeka kumuntu ngamunye esizwanenzi, nobudlelwane phakathi kwezizwana nesizwe esikhulu, leso naleso sizwe sasizimele ngokwaso siziphilisa, futhi sizimele ngakho konke. Ukubanga amanzi namadlelo kwakuyinto eseqoka kubona, futhi naleso sizwe sasithatha ngokuthi kusemtethweni ukuthi sigebenge futhi selerese esinye.

Ubukhulu besizwe esithile bebahluwelwa ngamandla nomfutho wokulwa kwaleso sizwe. Umthetho munye vo ababewazi; yinhloniphoxubene nolaka, ubudlelwane bobuzwe nobuhlobo, futhi babejwayele ukuphathwa yinkosi

kuleso naleso sizwe, kanti nalokho futhi kwakuyinto eyayingasena sisindo emahlombe amalunga esizwe. Kwa-kuhlalwa emphakathini owawucekela phansi yonke into.

I-Arab ikakhulu iBadawin, laliphila impilo eqokwa yintando yalo. Ukuba ngaphansi komthetho obalulekile, noma ukuhlangana kwezizwe esincane kwenziwe isizwe esikhulu kwakungakaze kuzanywe ngaphambili. Ubudlwembe nolunya lwaludlangile, futhi nokuqubuka kwezimpi kuvamile, ukubulalana komuntu nomfowabo kwashiya umkhondo omkhulu wenzondo, amagqubu nokuhlalela ovalweni.

Akusikona ukuthi amaArab angesikhathi esingaphambi kwese-Islam, kwakungabantu ababephila impilo yobulwane bengaphucuzekile. Phezu kwemikhuba yawo enonya nokuxhaphazana wodwa, ayenako nokho ukuziphatha okutusekayo njengokuphana, ukuphatha kahle izihambi nokufeza izwi lesivumelwano. Uma liyisitha iBadawin laliyingozi, kepha uma lingumngane lalithembekile. Ukuphila edolobheni noma emaphandleni ogwadule, amaArab ayekuthatha njen-gento eyisipho esimqoka, ubugagu, ukusebenzisa umcibisholo ngobumpetha kanye nolwazi lokugibela ihhashi konke lokhu kwakuyinto eseizingeni eliphezulu. Uthando lokubuthwa em-pini kuyigugu elikhulu entuthukweni yeBseseom.

Abantu baseArabiya ngokuvamile babekhonza izithixo. Lapha nalaphaya kwakutholakala imithonseyana yamaJuda namaKrestu. Kubalandeli kwasekuyinqubo yokulandela nje kepha indaba yencolo sekuyinto engasathi shu. Abanye babezisho ukuthi balandela uAbraham, kepha amaArab amanangi ayezikhonza izithixo. Lowo nalowo muzi omkhulu, njengaleso naleso sizwe sasinonkulunkulu baso, kanye nendlela yokubakhonza. Ngisho iKa'ba (indlu kaNkulunkulu eyakhiwa nguAbrahm) yayisigcwaliswe nge-zithixo. AbaseMakkah bona babebuye bakholwe kuNkulunkulu uSomandla, uMondli, Obedlula bonke, ofanele ukunxuswa ngezikhathi zobunzima nezezingozi. Ukuqonda mayelana noNkulunkulu Oyedwa OnguMdali, kwase

kuwulwazi oluthe gqwagqwa lapha nalaphaya. Kwase kuzicacela ukuthi kudingeka umholi omkhulu kwezenkolo namayelana nokuziphatha kwabantu ngaleso sikhathi.

### **UKUZALWA KOMPROFETHI**

UMuhammad (ukuthula kube kuye) wazalelwa edolobheni laseMakkah eArabiya zingu 12 Rabi-al-Awwal onyakeni owaziwa ngokuthi Owendlovu, ngenxa yesimangaliso esenzeka uMdali uAllah Esindisa umuzi waseMakkah kulabo ababewuhlasele (funda isahluko 105 nencazelo). Lonyaka onokuhambelana nomhlaka 20 August 570 A.D. ngemuva kukaJesu).

U-Abdullah Muttwalib ubaba kamProfethi uMuhammad (ukuthula kube kuye), wadlula emhlabeni izinyangani eziyisithupha engakazalwa. Wayebuya kohweba eDamaseku, wathunwa eMadina. Ngenxa yokuthi unina uAmina wayengenalo ubisi, umkhulu wakhe uAbdul Muttwalib owayengumholi wesizwe esihlonishwayo sakwaHashim esizweni samaKuraish, wamtholela owesifazane owayethembekile wesizwe sakwaSa'd okwakunguHalima.

Kwathi engakayihlanganisi iminyaka eyisithupha, wamshiya unina emhlabeni, wasala nomkhulu wakhe owayemthanda ngendlela emangalisayo. Wayehamba naye umzukulu ngisho noma eya esigcawini kubhungwa ngezindaba ezibalulekile. Umkhulu wakhe naye wamshiya iminyaka emibili umama wakhe amshiya emhlabeni, wasala esandleni sikayise omkhulu uAbu Twalib, owaba ngumholi wamaKuraish.

Ngenxa yothando lukamfowabo kanye nolukayise uAbu Twalib wathanda uMuhammad (ukuthula kube kuye) ngendlela eyisimanga. Wayehamba naye ngaso sonke isikhathi ngisho noma eyohweba eDamaseku, nakwamanye amazwe. Ngeline ilanga bengaseBasra, indoda yomKrestu eyayizide-lile ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu yababona yabamemela lapho yayihlala khona, ngemuva kokuthi isiboniswe isibonakaliso esithile ngalomfana, yamvivinya ngokuthi ifuna

ukumbuza umbuzo, yathi akafunge ngezithixo ukuthi uzo-wuphendula lowombuzo. UMuhammad (ukuthula kube kuye) waphendula ngokuthi impela lamagama ezithixo awathandeki kuyena, lendoda okunguBahira yabuye yathi futhi adafunge ngoAllah, uMuhammad (ukuthula kube kuye) wa-vuma.

Ngemuva kwengxoxo noMuhammad (ukuthula kube kuye) uBahirah wathatha wathi kuAbu Twalib: «Lomfana uzoba nekusasa elingajwayelekile neliqhakazile. Uma amaJuda engathola lokho esengikubone kuye azombhubhisa. Umqapheli amaJuda angamlimazi». UAbu Twalib wathi: «Umiselwe ukwenzani na, namaJuda azomsukela ngaliphi nje?» UBahirah wathi: «Umiselwe ukuba umProfethi, ingelosi kaMoya oyiNgcwele izomembulela okuyiNgcwele». UAbu Twalib wathi: «U-Allah Akasoze Amyekellele, Uzomhlenga kumaJuda nasezitheni ezinokuba yingozi kuye».

Wabangumelusi wezimvu zikayise omkhulu uAbu Twalib, kanye nezabanye abantu baseMakkah. Lomsebenzi wokwelusa wamnika isikhathi esihle sokuqhelelana nomsindo nezinkinga zabantu basedolobheni, kakhulukazi isikhalo ezazivamise ukuzothulwa ngabantu kuyise omkhulu uAbu Twalib owayengumholi esizweni samaKuraish.

Impela lomsebenzi wamfundisa ukubekezelala, uzwelo, ukuziphatha kahle, ukubonelela abanye abantu, ukugwema ububi. Waduma ngokuthi ‘uMuhammad, Al amin’ (uMuhammad othembekileyo). Isimo sobulwane kubantu bakubo asikwazanga ukumngena, waze waba neminyaka engu 25 bengamazeli lutho olubi, bemethemba njengomuntu omsulwa nolungileyo.

Udumo lukaMuhammad njengomuntu othembekile lwathinta owesifazane owaye ngumfelokazi uKhadijah Khuwalid, wayengumhwebi futhi eziphethe ngokwethembeka emsulwa. Wayengowesizwe samaKuraish, ngokuzwa ngoMuhammad (ukuthula kube kuye) wayesemqasha ukuze ambekele ibhizinisi lakhe.

U-Masara isisebenzi esidala sikaKhadijah, samchazela ngokuziphatha kukaMuhammad (ukuthula kube kuye) emsebenzini, nangekhono lakhe mayelana nokuhweba nabanye, ukwenyuka kwezinga lomsebenzi, inzuzo enkulu nesibusiso abasitholile, umbono womuntu omgumKrestu ngekusasa likaMuhammad (ukuthula kube kuye), umbono wendoda ethize yomJuda ngobuProfethi bakhe. Sekukonke lokhu kwabangela ukuthi isikhathi singengakanani lomfelokazi wamshada lomlisa owayesemusha kunaye.

Kuyoyonke iminyaka engamashumi amabili nanhlanu beshadile behlala ndawonye, uKhadijah (iNkosi Imbusise) waba wusizo olukhulu, futhi konke ayenakho wakunikela kumProfethi ukuthi akusebenzise emsebenzini wakhe wobu-Profethi. Wazalela umProfethi (ukuthula kube kuye)abantwana abayisithupha: uKasim noTwahir bashona besebancane eMakkah amadodakazi ayemane uRukiya, Umm Kulsum, noZainab, noFatwima owagqama futhi wahlonishwa kakhulu kunabanye.

### UMPROFETHI NOMBIKO

I-Makkah yayihlonishwa ngenxa kaAbraham ukhokho kaMuhammad (ukuthula kube kuye) owafundisa amaArab ngoNkulunkulu oyedwa vo, futhi ayeseqala ukuvakashela umuzi oNgcwele kanye neKa'ba Indlu yokukhonza uNkulunkulu. Kungalokho isizwe esasizinze edolobheni lase-Makkah sasihtonishwa njengabalindi bomuzi oNgcwele.

Ukukhanya kwase kufikile ngoMuhammad (ukuthula kube kuye) owaqala ukubika umsebenzi wakhe ezhlobeni zakhe. Umkakhe uKhadijah, uAli kaAbu Talib umzala wakhe base bengabandeli bakhe. UmProfethi (ukuthula kube kuye) wayengafuni lutho kubona, wayebabuvisela end-leleni yokukhonza uNkulunkulu (uAllah) uMdali wezinto zonke. U-Ali kaAbu Twalib (iNkosi imbusise) waye-sengumfana omncane, futhi eyisihlobo sakhe.

Ngemuva kweminyaka emithathu, ngokuyalwa nguAllah uSomandla, uMuhammad (ukuthula kube kuye) wakhipha



مَعَانِي آيَاتٍ مُحْتَارَةٍ مِنْ  
الْقُرْآنِ الْكَبِيرِ

isimemo emzini waseMakkah. Kwaphuma nesinedolo, umProfethi wema esiqongweni sentaba iSwafa wakhipha isime-mezelo wathi: «O, bantu bakithi! Ningakholwa yini uma ngninitshela ukuthi izitha zenu zihlose ukunihlasela ngokusa noma ebusuku na?» Baphendula bathi: «Asikaze sikuzwe ukhulumma amanga empilweni yakho yonke».

Waqhubeka wathi: «Sizwe samaKuraish! Ngiyanixwayisa ukuthi nesabe isijeziso sikaAllah. Zihlengeni emlilwени. Isimo sami siyefana nesomqaphi obona isitha sisekude ax-wayise abantu bakubo ngengozi yezitha. Kungabe umuntu onjalo uke aqambe amanga yini kubantu bakubo na? Yemukelani ukuthi: Akekho uNkulunkulu ngaphandle ku-kaAllah, nizobusa umhlaba».

UAbu Lahab waxova yonke inkulomo yangalolosuku, ezama ukuhlenga izithixo zabo, uAllah Wembula isahluko 111 seKur'an emqalekisa. Iningi labantu bathathwa umfutho wombiko wenkolo enombiko amnandi. Baqala ukuhlushwa abantu, amaKuraish ebona uMuhammad engavumelani ne-zethembiso zabo zokuthi angasaqhubeki nalombiko, futhi bemthembisa ukumenza inkosi yabo uma engazudidisa in-kolo yabo.

I-Makkah yonke yazamazama kwaze kwacaca ukuthi umProfethi (ukuthula kube kuye) uzohlasewa kobunye ubusuku, uSomandla wamnika lesosibonakaliso, waphuma emzini waseMakkah kanye nomngane wakhe uAbu BAkar, eshiye ekhaya lakhe umkakhe kanye nomzala wakhe uAli. Babaleka baze bayobhaca emgedeni waseThaur okuyindawo engamamayela amathathu ukusuka eMakkah. Lokhu kwaba isiqalo somlando weIslam eyayilindelwe ngabomvu eMadina. Lona kwaba unyaka wofuduko kanye nempumelelo kuma-Muslim..

### UKUKHOTHAMA KOMPROFETHI

Onyakeni wesishiyagalolunye ngemuva kofuduko (Hijra), abaholi bezinxenye zeArabiya babeza edolobheni laseMadina bezozinikela kumProfethi oNgeweles uMuhammad

(ukuthula kube kuye), besuna neziyalo zeKur'an. UmProfethi (ukuthula kube kuye) wayesengumholi weArabiya yonke kodwa wayeziphethe ngendlela eqotho njengasekuqaleni.

Kuleminyaka eyishumi waqeda ukukhonzwa kwezithixo eArabiya, wakhuphula izinga labesifazane baphila ngendlela ehloniphekile; waqeda ubudakwa nokungaziphathi ngendlela yomthetho eyayihlaza amaArab, wenza abantu bathuthuka ngakhokonke, baphila ngokholo nethemba, ubuqotho nokusebenza ngokwethembeka; kwaguquka abantu abaphila amakhulu eminyaka ngaphandle kolwazi, baqala ukomela ulwazi. Waqopha umlando ngokuhlanganisa ubuzalwane esintwini, iqiniso kanye nezimiso emthethweni olinganayo kubo bonke. Kukho konke lokhu wayeholwa ngamazwi kaAllah alotshwe kuKur'an eyiNgcwele.

Onyakeni weshumi ngemuva kofuduko (Hijra), waya emzini waseMakkah eyokwenza iHajj okwaba eyokugcina okuthiwa «iHajj yokuvalelisa». Washumayelo esixukwini esasiminyene entaben iArafat. Wasikhumbuza ngomsebenzi osemahlombe aso njengamaMuslim, nokuthi ngelinye ilanga bayovela phambi kweNkosi yabo, behlulelw ngezenzo zabo. Ngemuva kwentshumayelo wababuza wathi: «Ngiwudlulisele yini umbiko na?» Emyakeni engamakhulu, nasezinyangeni esezedlula lesosixuku sasikhonza izithixo, lesosixuku saqubula simemeza sithi: «O, Allah! Yebo (mProfethi)!» UmProfethi (ukuthula kube kuye) wathi: «O, Allah! Mawube ngufakazi!»

Kwaba ngalesosikhathi seHajj yokugcina lapho embulalwa khona umProfethi (ukuthula kube kuye) isahluko 110, esaziwa ngokuthi «Usizo», futhi lesambulo sasesibika isipetho somsebenzi wakhe. Ngemuva kokuba abuyele eMadina, phakathi kwamabili zingu 18 enyangeni kaSwafar emuva kofuduko, umProfethi (ukuthula kube kuye), wahamba waya emathuneni omphakathi, ukuthi ayocelela labo abalele lapho izibusiso zikaAllah.

Lapho ephindela endlini yakhe wazizwa engaphathekile

kahle. Wagula waze waphetha ngokukhothama. Izwe la-seArabiya lafikelwa ukwesaba, isililo sasisikhulu kubantu baseMadina, eMakkah kanye naseTa'if. Lapho isimo som-Profethi (ukuthula kube kuye) sesisibi ngempela, engasakwazi ngisho ukuhola umkhuleko, wayala ukuthi umhlonishwa uAbu Bakar (iNkosi Imbusise) ahole umkhuleko. U-Ibn Sa'd ubika ngegunya likaAnas kaMalik, noUbayd kaAmr, noIbn Abbas (uAllah engathi Angathokoza ngabo) wathi: «Umhlonishwa uAbu Bakar wahola umkhuleko izikhathi eziyishumi nesikhombisa ngesikhathi umProfethi (ukuthula kube kuye) esaphila, kanti umProfethi (ukuthula kube kuye) wema kanye ngemuva kwakhe, lapho umhlonishwa uAbu Bakar ehola umkhuleko. UmProfethi wadlula emhlabeni zingu 12 kuRibi-al-Awwal onyakeni weshuminanye ngemuva kofuduko (Hijra).



**SURAH FATIHA<sup>[1]</sup>-UKUVULWA**

1. Egameni likaAllah<sup>[2]</sup> (uNkulunkulu) Onomusa, Onesihawu.
2. Udumo malube kuAllah, (uMdali) noMondli wamazwe onke.
3. Onomusa<sup>[3]</sup>, Onesihawu.
4. Mbusi woSuku lokwahlulela!
5. NguWena kuphela esiM-khonzayo, futhi kuWena wedwa sicela usizo.
6. Siholele endleleni eqondile.
7. Indlela yalabo Owabehlisela umusa waKho<sup>[4]</sup>, kungabi yindlela yalabo abehlelwa wulaka IwaKho, noma labo abedukayo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

إِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

**INCAZELO**

[1] Lesisahluko (Surah) Sandulela yonke imikhuleko, futhi siyibika le-Kur'an isiyonke.

[2] BismIllah «Egameni lika-Allah». Igama likaNkulunkulu Owadala konke uAllah, aliphathwa ngeze. Yonke imisebenzi emihle yandulelwa yigama laKhe.

[3] Rahman (Onomusa). Umusa KaAllah wengamele zonke izinto kulumhlaba, kwabahle nakwababi. Rahim (Onesihawu) kuphela kwabakholwayo kuleli nakweLizayo.

[4] Laba bachazwe kahle esahlukeweni 2:136-137.

**SURAH BAQARAH-INKOMAZI**

Egameni lika Allah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

1. Alif Lam Mim<sup>[1]</sup>.
2. Lena yiNcwadi enenkokhelo  
yeqiniso engengatshazwe, yilabo  
abesaba uAllah;<sup>[2]</sup>
3. Labo abakholelwa kulokho  
okungabonwayo, futhi beqikelela  
ukwenza umthandazo, besebenzisa  
lokho eSibabele<sup>[3]</sup> kona.
4. Nalabo abakholelwa kulokho  
okwembulelw wena<sup>[4]</sup> (Mu-  
hammad), nalokho okwembulwa  
ngaphambi kwakho, futhi bene-  
siqiniseko ngempilo yakweLizayo.
5. Labo-ke basekuholweni  
(kweqiniso) okuvela eNkosini

[1] Alif, Lam, Mim. Labongwaqa bayisifinyezo sombiko okulesisahluko.  
[2] Ukwesaba kuchaza ukuba nonembeza, ukucophelela: yilabo-ke aba-  
thandekayo kuNkulunkulu.

[3] (a) Ungwaqa omkhulu egameni elithi «eSinabele» kona, lapha aku-  
qondisiwe ebuningini; kepha lapho ungwaqa omkhulu eset-  
shenziswa uchaza umsebenzi kaNkulunkulu Yedwa. Silandele  
indlela okuchazwe ngayo olimini lwesiArab. Nakwamanye ama-  
vesi 23, 35, 38, ukuqhubeka.

(b) Isabelo noma imfundu yakho yinhle kuAllah uma ibawusizo  
emphakathini noma esizweni sonke.

[4] Um Prophethi uMuhammad wembulelw iKur'an eNgcwele (Izihayo).  
UAllah wembula iTorah (uMthetho) kuMose, iZabur (amaHubo) ku-  
Davide, neInjil (iVangeli) kuJesu (ukuthula kuge kubona).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمُ

ذَلِكَ الْكِتَابُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُدًى  
لِلْمُسْتَقِيْنَ

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ  
الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقَهُمْ يُفْعِلُونَ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا  
أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

أُولَئِكَ عَلَى هُدَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ

yabo, yibona labo futhi abayo-phumelela.

6. Ngempela kulabo abaphika ukholo, kuyefana nje ukuthi uyabexwayisa noma awubaxwayisi; abasoze bakholwa.

7. UAllah Uvale izinhliziyo zabo kanye nezindlebe zabo, futhi kunesisithezo phezu kwamehlo abo, sikhulu futhi isijeziso esizoba phezu kwabo<sup>[1]</sup>.

### ISIGABA2.

8. Futhi phakathi kwabantu kunalabo abathi: «Siyakholwa kuAllah, nasoSukwini lokuGcina»; kepha bengakholwa.

9. Bezama ukukhohlisa uAllah kanye nabakholwayo; kepha bazi-kohlise bona uqobo, futhi ababoni.

10. Izinhliziyo zabo zinesifo, noAllah wabandisela isifo sabo: bamelwe yisijeziso esibuhlungu, ngoba benamanga.

11. Uma kuthiya kubona: «Musani ukona emhlabeni». Bathi: «Thina singabalungisayo njel»

12. Ngokwempela yibona kanye izoni, kepha abanakile.

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ④

إِنَّ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِذَا مَوَاتَاهُمْ إِذَا رَجَعُوهُمْ أَمْ لَهُمْ تُذْنِبُهُمْ لَيَوْمَ مَوْتُهُمْ ⑤

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غَشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑥

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّا يَاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ⑦

يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ⑧

فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْنِي بُونَ ⑨

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّا نَعْمَلُ مُصْلِحَاتٍ ⑩

الَّذِي هُمُ الْمُقْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ⑪

[1] UAllah wabayekelala badlula, ngokuba bengalithandi iqiniso.

13. Uma betshelwa kuthiwa: «Kholwani njengoba abanye abantu bekholwa!» Bathi: «Singakholwa kanjani thina njengezi-wula na?» Kepha empeleni yibona kanye iziwula kodwa bona abazi.

14. Uma behlangana nalabo abakholwayo, bathi: «Siyakholwa». Kuthi lapho sebebodwa nosthane phakathi kwabo, bathi: «Ngempela sikanye nani, besifane sibhinqa nje».

15. UAllah Uyophindisela kubo imibhinqo yabo, futhi Abayeke benhlanhlatha bedukise okwezimpumputhe.

16. Yibo-ke laba abazinanele ukweduka kunokuholwa, kepha umsebenzi wabo awuzukuba nan-zuzo, futhi abehko endleleni eqondile.

17. Bafaniswa nalabo abaphemba<sup>[1]</sup> umlilo okuthi lapho usubakhanyisele yonke indawo, uAllah Athathe ukukhanya kawo, Abashiye ebumnyameni (obukhulu), bengaboni.

وَإِذَا قُبِّلَ لَهُمْ أَمْوَالًا كَمَا أَمْنَى اللَّّا سُ  
قَالُوا إِنَّمَا مُنْعَنَا مِنَ السُّفَهَاءِ إِنَّا لَأَنَّهُمْ  
هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

وَإِذَا كُفُّوا إِذْنَيْنَ أَمْتُوا قَاتِلَوْا أَمْتَأْ  
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطَنِهِمْ قَالُوا إِنَّا  
مَعْلُومٌ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿٥﴾

أَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَنْهٰى هُمْ فِي  
طُغْيَانٍ هُمْ يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ مِنْهَا  
رَجَحَتْ تِبْيَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٧﴾

مَنْأَوْهُمْ كَيْتَلَ الَّذِي اسْتَوْقَدَ كَارَاهُ فَلَمَّا  
أَضَاءَتْ مَآخِلُهُمْ ذَهَبَ اللَّّٰهُ بُنُورِهِمْ  
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمٍ لَا يُبَصِّرُونَ ﴿٨﴾

[1] Ukuziqhayisa, ukukhohlisa nokuphikisa iqiniso, kuyinto ethokomali-sayo okwesikhashana.

**18.** Bayizithulu, zimungulu, (futhi) zimpumputhe, yingakho benguzukuphindela endleleni<sup>[1]</sup>.

**19.** Noma njengezulu ligqunqe limnyama linemvula eningi emafini, liduma futhi linyazima; bavala izindlebe ngeminwe yabo, ngenxa yokuqequebulu kwezulu, besaba ukufa. UAllah Uyabakaka abangakholwa.

**20.** Umbani uthi awufiphaze amehlo abo njalo uma linyazima, bahamba ngokukhanya kwawo, futhi uma benganyelwa ubumnya-ma bame<sup>[2]</sup>. Ngempela uma uAllah Wayethandile Ubeyobavala izindlebe, kanye namehlo abo, ngoba ngempela uAllah Un-amandla phezu kwakho konke.

### ISIGABA3.

**21.** O, Sintu! Khonzani<sup>[3]</sup> iNkosi yenu Eyanidala kanye nalabo abangaphambili, ukuze nikwazi ukugwema ububi.

**22.** Leyo Eyenza kinina umhlab-a (ubukeke) undlaleke okwecansi, nesibhakabhaka sawuphahla; Eph-

صُوْلَكُوكْعُمْ فَهُوَ لَا يَرْجِعُونَ ⑩

أَوْ كَصِيبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمٌ وَرَعْدٌ  
وَبِرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ  
مِّنَ الْقَوْاعِدِ حَذَرَ الْمَوْتُ وَاللهُ عَلَيْهِ  
بِالْكَفَرِينَ ⑪

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا آتَاهُمْ  
لَهُمْ مُشْتَوَاقِيَّةٌ وَرَدَّ أَظْلَامَ عَلَيْهِمْ قَاتُوا  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنَهَبَ بِسَعْهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑫

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُوكُلِّ الْذِي خَلَقْتُمْ  
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ⑬

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قِرَاشًا وَالسَّمَاءَ مَمْدُودًا  
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ

[1] Lokho konke wumphumela wokuba yisitha seqiniso.

[2] Iqiniso liyinto ebadidisayo, bayalizwa kepha babuye balahleke labo abathukuse ubuqili ezinhliziweni zabo.

[3] Ukuzinikela, ukuthanda noma ukusebenzela iNkosi uAllah.

emba imvula emafini, ukuze nikhiqize izithelo enizidlayo. Ngakho-ke ningabi nezimbangi esikhundleni sikaAllah nibe nazi.

**23.** Akuthi uma nina ningabaza eSikwembulele inceku Yethu (uMuhammad) nilethe isahluko esinjengalesi, nizenofakazi benu ngaphandle kukaAllah, uma nine-qiniso.

**24.** Kepha uma ningekwazi ukukwenza (lokho), ngempela anisoze nakwenza, ngakho-ke qaphelani ukunqwamana nomlilo obaselwe ngabantu nangamatshe, olungiselelw abangakhola.

**25.** Ngempela shumayela izindaba ezimnandi kulabo abakholyayo futhi benza nokulungil-eyo, umvuzo wabo uzoba yizivande ezigobhoza amanzi ngaphansi, kuthi njalo uma bondliwa ng-ezithelo kuzo, bathi: «Yiko lokhu esake sakuphiwa ngaphambili!» -ngoba bephiwa okufanayo, futhi phakathi lapho bayophiwa izith-andwa ezimsulwa, bahlale nazokuze kube phakade.



**26.** Ngempela uAllah Akanawo amahloni okufanekisa ngezinamb-uzane nangokungaphezu kwazo;

من الشّرِّيْتِ رُزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْلُهُ  
أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧﴾

وَإِنْ تُنْهِيْنِ رَبِّ مِمَّا تَرَكْنَا عَلَى عَبْدِنَا  
فَأَنْتُوْ إِسْوَرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوْا  
شَهِدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ الْعَوْلَانِ  
كُنْتُمْ صَدِيقِيْنَ ﴿٨﴾

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَأَنْقُوْالنَّكَارَ  
الَّتِيْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعْدَاتُ  
لِكَفِيرِيْنَ ﴿٩﴾

وَبَيْرِ الَّذِيْنَ امْتَوْا وَعَلَوْا الصَّلِيْحَتِ أَنَّ لَهُمْ  
جَهَنَّمَ تَبَغِيْرِيْ منْ تَعْتِيْهَا الْأَنْهَرُ كُلَّمَا رُزْقُوا  
مِنْهَا مُنْ شَرَّقَ رُزْقًا قَالَ أَوَهَدَ اللَّهُيْ رُزْقَنَا  
مِنْ قَبْلٍ وَأَتُوْيِهِ مُتَسَّبِّهِا وَلَهُمْ فِيهَا  
أَرْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُوْنَ ﴿١٠﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعْجِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا تَابِعَوْهُ  
فَمَا فَوَّقَهَا فَأَمَّا الَّذِيْنَ امْتَوْا فَيَعْلَمُوْنَ

ukuze labo abakholwayo bazi ukuthi leli yiqañiso elivela eN-kosini yabo, kepha labo abangakholwa bathi: «Uchazani uAllah ngalomfanekiso na?» Udidisa abaningi ngawo, futhi iningi Ulihola ngawo; kepha Akadidisi lutho ngawo ngaphandle kwabonayo<sup>[1]</sup>.

**27.** Labo abephula isethembiso sikaAllah ngemuva kwesiqiniseko, futhi behlukanisa lokho uAllah Ayale ukuthi kuhlanganiswe<sup>[2]</sup>, abenza futhi ububi emhlabeni. Yibo-ke labo abalahlekelwayo<sup>[3]</sup>.

**28.** Anikholwa kanjani kuAllah kanti naningenakho ukuphila Yena wanipha ukuphila, futhi eSazokwenza ukuthi nife, Abuye Anivuse bese nibuyela kuYe?

**29.** NguYena Owanidalela konke okusemhlabeni; Wayese phen-dukela ezulwini Walenza lane-mikhakha eyisikhombisa, futhi nguYena Onolwazi ngezinto zonke.

أَئِهِ الْحَقُّ مَنْ رَبَّهُمْ وَأَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا  
فَيَقُولُونَ مَاذَا إِذَا رَادَ اللَّهُ بِهِمْ أَمْثَلًا  
يُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا  
وَمَا يُضْلِلُ بِهِ إِلَّا الْفَرِيقَيْنِ ﴿٦﴾

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ  
مِسَاكِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَاهُمُ اللَّهُ بِهِ أَنْ  
يُوَصِّلَ وَيُهْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ  
هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿٧﴾

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَالًا  
فَأَخْيَاهُ لَكُمْ لَهُمْ بِيُنْتَهُ شَهْرُ حِجَّةِ كُلُّ شَهْرٍ  
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا  
نُقْسَانًا وَالشَّمَاءَ سَوْفَ يُهْلِكُنَّ سَيْرَهُ  
سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩﴾

[1] UAllah Ufanekisa ngezinto zonke, ngokuba izinto eziphathelene nobuhlakanizichazwa ngemifanekiso.

[2] Inkolo eyashumayelwa nguJesu igcwaliiseke kuMuhammad (ukuthula kubekubona), kuJohane 14:16 uchazwe njengoMdudu kanye noMoya weqiniso.

[3] Abuwutholi umusa KaAllah.

## ISIGABA4.

**30.** Bheka! INkosi yakho yathi eZingelosini: «Ngempela Ngizobeka indlalifa emhlabeni»<sup>[1]</sup>. Zathi: «Kungani Uzobeka kuwo ozokona achithe negazi<sup>[2]</sup>, kanti thina sidumisa ubuNgcwele baKho na?» (uAllah) Wathi: «Ngempela Ngazi lokho nina eningakwazi».

**31.** Ngempela Yena Wembulela uAdam ulwazi lwamagama ezinto zonke; wayeseziveza eZingelosini, Wathi: «Ngaziseni amagama alezinto uma nineqiniso!»

**32.** Zathi: «UbuNgcwele bungobaKho! Asinalwazi ngaphandle kwalokho Owasembulela kona, ngempela nguWena Onolwazi, Nobuhlakani».

**33.** Wathi (uAllah): «O, Adam zibize ngamagama azo». Kwathi esezibizile ngamagama azo, Wathi (uAllah): «Anginitshelanga yini ukuthi Ngazi izimfihlo zamazulu nomhlaba, futhi Ngazi enikuveza obala nalokho enikuthukusayo na?»

**34.** Bheka! Sathi eZingelosini:

وَلَدْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي  
الْأَرْضِ خَلِيقَةً قَاتِلًا وَأَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُقْسِدُ  
فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيْهُ  
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ  
مَالَ الْأَعْلَمُونَ

وَلَعِمَ ادْمَرَ الْأَنْسَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى  
الْمَلِكَةِ فَقَالَ أَتَيْتُكُمْ فِي بَاسْنَاءٍ هُؤُلَاءِ  
إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَكَ عِلْمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْنَا إِنَّكَ  
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

قَالَ يَا آدَمَ إِنِّي هُمْ بِإِسْمَإِرمَ فَكَلَّتِي أَنْتَ هُنْ  
بِإِسْمَأِرمَ قَالَ أَلَّا تَقْنُ عَلَيْكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْرَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا يُبَدِّلُونَ  
وَمَا لَنْتُ بِكُمْ مِنْ شَرِيكٍ

وَلَدْ قَدْلَنَ لِلْمَلِكَةِ اسْجُدْ وَالْأَدَمَ فَسَجَدُوا

[1] Indlalifa yilowo onolwazi ngomthetho nenjongo yoMnini. Izimisela ngohlelo loMnini, futhi Ihlala ethokozile ngalo. Leli yizinga elanikezwa umuntu.

[2] UAllah Wanikela umuntu isigaba esikhulu ngokolwazi nobuhlakani, hhayi ubuqili, amandla nokuchitha igazi.

«Khothamelani uAdam!» Zakhothama, ngaphandle kukaI-blis<sup>[1]</sup>. Wala, futhi waqhoshsha: waba ophika ukholo.

**35.** Futhi Sathi: «O, Adam! Hlala wena nomkakho esivandeni, nidle kuyo yonke indawo lapho nifuna (ukudla) khona; kepha ningasondeli kulomuthi nobabili, ngoba nizoba abenzi bokubi».

**36.** Kepha usathane wabakhubekisa kulokho, wabakhipha esimeni (esimnandi) ababekuso. Sase Sithi: «Yehlelani phansi (nonke), abanye phakathi kwenu bayizitha zabanye! Emhlabeni kuyakuba yindawo yenu yokuhlla, kanye nenjabulo yesikhashana».

**37.** UAdam wayesethola amazwi (okushweleza) eNkosini yakhe Yase Iphendukela kuye. Ngempela Iyathethelela njalo Inomusa.

**38.** Sathi: «Yehlelani phansi, nisuke lapha, ngempela uma kufika kinina izaluleko zaMi, kulabo abazozwisia uma Ngibahola, abasezukuba navalo, futhi abasoze bakhathazeka».

إِلَّا إِنَّهُمْ مَا بَيْنَ أَيْمَانِ وَأَسْتَلْجَبَرَ وَكَانَ مِنَ  
الْكُفَّارِ<sup>②</sup>

وَقُلْنَا يَا آدَمَ إِنَّكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ  
وَكُلَّا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا  
هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَنَّكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ<sup>③</sup>

فَأَزَّلْنَاهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا  
كَانَا فِيهَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ  
عَدُوًّا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرَرٌ وَمُتَاعَبٌ  
جِنِّينَ<sup>④</sup>

تَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ  
هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ<sup>⑤</sup>

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا حَيْثُ مَا قُلْنَا يَا إِنْجَلْمِي  
هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدًى أَمْ قَلَّ كَوْفُ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَرْجِعُونَ<sup>⑥</sup>

[1] U-Iblis ngusathane noma umphambuki.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا يَا إِنْتَ أَوْلَى لَكَ  
أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٦﴾

39. Kepha labo abangakholwa, futhi bethi izambulo zeThu amanga, yilabo-ke abezwana nomlilo. Bazojeziswa kuwo ngo-naphakade».

### ISIGABA5.

40. O, Bantwana bakwa Israyeli! Khumbula umusa lowo Enganenzela wona, futhi fezani isivumelwano (enasenza naMi njengoba) Ngifeza isivumelwano saMi nani, futhi nesabe Mina kuphela!

41. Ngempela nikholwe kulu-khu Engikwembulayo, nokugcwalisila isambulo leso esikinina, ningabi abokuqala abenqaba ukukholwa yiso, futhi ningachithi izambulo zaMi ngenxa yenzuzzo eyize; futhi nesabe Mina ngedwa!<sup>[1]</sup>

42. Ngempela ningasithezi iqiniso ngamanga, futhi ningagodli iqiniso nibe nilazi.

43. Gcinani umthandazo, nisisele abampofu, futhi nikhothame nala-bo abakhothamayo (enkonzweni).

44. Niyala ukuthi abantu benze ukulunga nibe nina ngokwenu

لَيَقُولَّ إِسْرَائِيلُ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ  
عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِكُمْ  
وَإِنَّمَا قَارَبُونَ ﴿٧﴾

وَالْمُؤْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ  
وَلَا تُكُونُوا أَوَّلَ كَافِرُهُمْ وَلَا شَذُونَوا يَا إِنْتَ  
شَهِيدٌ لَّهُ لَمَّا قَاتَلُوكُمْ ﴿٨﴾

وَلَا تَأْتِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُكْتُمُوا الْحَقَّ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكُورَةَ وَأَكْعُوامَهُ  
الْكَرْعَانِ ﴿١٠﴾

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْمُرِّ وَتَنْهَسُونَ

[1] AmaJuda namaKrestu ayecacelwa kahle ngomProfethi uMuhammad (ukuthula kube kuye), kepha abalukhuni ngenxa yenzuzzo encane uma iqathaniswa naleyo yakweLizayo.

nikhohlwa (ukwenza), futhi nina ningabafundi bemibhalo na? Ingabe aninakuqonda na?

أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَشْتُرُونَ الْكِتَبَ أَفَلَا يَعْقُلُونَ<sup>④</sup>

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لِكَيْدَةٌ إِلَّا  
عَلَى الْحَسِينِ<sup>⑤</sup>

**45.** Ngempela celani usizo ngo-kubekezelu nangomkhuleko: futhi lokhu ngempela kunzima, hhayi kodwa kulabo abazithobileyo.

**46.** Labo abanomqondo oqini-seke ngokuthi bayohlangana neNkosi yabo, nokuthi bayophindela kuYo<sup>[1]</sup>.

الَّذِينَ يَظْهَرُونَ إِنَّهُمْ مُلْقُوَاتِهِمْ وَأَنَّهُمْ  
إِلَيْهِ رَجُুنُونَ<sup>⑥</sup>

### ISIGABA6.

**47.** O, Bantwana bakwa Israyeli! Khumbulani umusa waMi enganenzela wona, nokuthi ngani-qoka kuzozonke izizwe (ukuze nidlulise umyalezo waMi).

يَلَيْهِ إِسْرَائِيلُ إِذْ كُنُوكُونَ عَنِيَّتِي الَّتِي آتَيْتُ  
عَلَيْكُمْ وَأَنِّي نَصْلَمُ عَلَى الْعَلَمِينَ<sup>⑦</sup>

**48.** Futhi yesabani lolosuku lapho umphefumulo ungezusiza omunye ngalutho, nokuzincengela kwawo kungena kwamukeleka, futhi kungekho nhlawulo engathathwa kuwo, kungekho onokuwusiza ngalutho.

وَالْقُوَّاْيُومَالْأَنْجَزُونِيَّ نَفْسٌ عَنْ تَفِيسٍ  
شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ  
مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصْرُونَ<sup>⑧</sup>

**49.** Futhi khumbulani Sankhulula esizweni sikaFaro: esa-nithwesa imithwalo enzima sibulala amadodana enu, futhi

وَإِذْ نَجَّيْنَاهُمْ مِنْ إِلٰ فِرْعَوْنَ  
يَسُوْمُونَكُمْ سُوْءَ العَذَابِ يُذَبِّتُونَ

[1] Ngemuva komsebenzi omkhulu wokugcina intado kaAllah, umuntu uzothola injabulo engapheliyo kuMdali uAllah.

sishiya abesifazane benu. Lesi kwakuyisivivinyo esikhulu seNkosi yenu.

أَبْنَاءُكُمْ وَيَسْتَحْيِيُونَ نِسَاءُكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ  
بِلَادُكُمْ مِنْ رَّسِيمٍ عَظِيمٍ<sup>④</sup>

**50.** Nikhumbule futhi Sa nehlukanisela ulwandle, futhi Sanihlenga, kepha Saminzisa abantu bakaFaro nibhekile.

وَإِذْ فَرَقْنَا لَكُمُ الْبَحْرَ أَجْعَنْتُمْ وَأَغْرَقْنَا إِلَى  
فِرْعَوْنَ وَآَنَّمْ سَطَرُونَ<sup>⑤</sup>

**51.** Nikhumbule Samisela uMose ubusuku obungamashumi amane , nasala ( nikhonza ) ithole, ngoba engekho, futhi niziphethe kabi.

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَنَّ بَعْدَ لَيْلَةَ ثُ�ُّ  
اَنْجَنَّتُمُ الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ  
ظَلِيلُونَ<sup>⑥</sup>

**52.** Noma kunjalo Sanixolela emuva kwalokho, ukuze nikhombise ukubonga.

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعْنَكُمْ  
تَشَرُّقُونَ<sup>⑦</sup>

**53.** Futhi khumbulani Sanika uMose umbhalo kanye nokwahlulela (phakathi kokuhle nokubi), ukuze niholwe ngendlela eqotho.

وَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّمَا كَيْبَبَ وَالْفُرْقَانَ  
لَعْنَكُمْ تَهَنَّدُونَ<sup>⑧</sup>

**54.** Nikhumbule futhi lapho ethi uMose: «O, bantu bakithi! Ngempela nizedukise nina uqobo, ngokukhonza ithole; ngakho-ke phendukelani ku-Mdali wenu, nizi bulale nina uqobol wenu<sup>[1]</sup> lokho kuzoba kuhle kinina nakuMdali wenu» Wabe Esephendukela kini-na ngentethelelo; ngoba ngempela Yena Ungumthetheli Onomusa.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْيِهِ يَقُومُ إِنَّمَا ظَلَمْتُنْتُ  
أَنْفُسَكُمْ يَا تَخَذِّلُ كُلُّ الْعَجْلَ فَقُوبِلَ إِلَيْ  
بَارِيْكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ حَيْدُرٌ  
لَكُمْ عِنْدَ بَارِيْكُمْ قَاتَلَ عَلَيْكُمْ  
إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَابُ الرَّحِيمُ<sup>⑨</sup>

[1] Nibulale izoni phakathi kwenu.

55. Nikhumbule nathi futhi kuMose: «O, Mose! Singeze sakukholwa soze sizibonele thina uAllah mathupha!» Nase ni-thathwa umbani nibhekile.

وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَى لَئِنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ  
اللَّهَ جَهَنَّمَ فَأَخْذَنَّكُمُ الظُّبْعَقَةَ وَأَنْتُمْ  
تَنْظُرُونَ ⑩

56. Sase Sinivusa emveni koku-fa kwenu, ukuze nibe noku-bonga<sup>[1]</sup>.

ثُمَّ بَعْشَنَّاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعْنَكُمْ  
تَشْكُرُونَ ⑪

57. Futhi Senza amafu angumthunzi wenu, Sanipha imana nezigwaca. (Kwathiwa): «Dlanini lokho okuhlanzekile eSinipha kona». Futhi abaSikhubazanga ngalutho, kepha bakhubekisa imiphefumulo yabo.

وَظَلَّنَا عَنِيكُمُ الْغَيَّامَ وَأَنْزَلْنَا  
عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ  
مَارِرَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَّنَا وَلَكُنْ  
كَانُوا أَنفَسَهُمْ يَظْلِمُونَ ⑫

58. Nikhumbule futhi mhla Sithi: «Ngenani kulelidolobha nidle kamnandi lokho enikufisayo lapho; kepha ningene esangweni ngokuzithoba, futhi nithi: ‘‘Sicela intethelelo’’. Siyonithethelela izono zenu, futhi Siyobandisela labo abalungileyo».

وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُّوا مِنْهَا  
حَيْثُ شِئْتُمْ رَغْدًا وَإِذْ دُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا  
وَقُولُوا حَمَّةٌ تَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايْكُمْ  
وَسَزَّيْدُ الْمُحْسِنِينَ ⑬

59. Kepha izoni zasho izwi okungelona abalinikiwe, Sase Sehlisela izoni isijeziso esivila ezulwini ngokona kwazo.

فَبَدَّلَ الَّذِينَ كَلَمْبُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قُيلَ  
لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ كَلَمْبُوا رَجْرًا  
مِنَ السَّمَاءِ وَبِهَا كَانُوا يَسْقُطُونَ ⑭

[1] Ama-Israyeli ayefuna uNkulunkulu afane nento ethile, noma eset-sheliwe ukuthi angabazi izithombe nemifanekiso. Ngaphezu kwalokho afuna ukuMbona ngeziqu zamehlo uAllah.

## ISIGABA7.

**60.** Khumbula futhi lapho uMose ecelela abantu bakhe amanzi; Sase Sithi: «Shaya idwala ngenduku yakho!» -yingakho-ke kwagobhoza imithombo eyishumi nambili kulo, kwayilelo nalelo qembu lanendawo yalo lapho liphuza khona. (uMose wathi): «Dlanini niphuze kwenikwabelwe nguAllah, ningenzi amachilo ez-weni ngokona».

**61.** Khumbulani nalapho nithi: «O, Mose! Singemele ukudla inhlobo eyodwa yokudla (njalo), ngakho-ke Sicelele eNkosini yakho Isiphe okumila emhlabathini-imifino amakhukhamba, ogaliki, amalintisi, kanye no anyanisi». Wathi (uMose): «Nifuna ukuguqukela kulokho okungelutho kunalokho okungcono na? Yanini edolobheni<sup>[1]</sup>, yilapho niyothola khona lokho enikufunayo!» Ngakho-ke bathola ukudunyazwa nokukhathazeka; bazidonsela ulaka lukaAllah, ngoba babengakholwa yizambulo zikaAllah, futhi bebulala nabaProfethi ngo kungemthetho, kwakungenxa yokuhlubuka nokweduka kwabo.

وَإِذَا سَسَّتْ مُوسَى لِقَوْيَهْ فَقُلْنَا أَضْرِبْ  
بِعَصَابَكَ الْحَجَرَ فَأَنْجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَانِ  
عَشَرَةَ عَيْنًا أَنْدَعَ عَلَمَ كُلُّ أُنْكَيْسَ مَشْرَبَهُمْ  
كُلُّهُوا إِشْرِيْوَا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْوَارِفَ  
الْأَرْضَ مُفْسِدِيْنَ <sup>(٤)</sup>

وَإِذْ قُلْنَهْ يُمُوسَى لَنْ نُصِيرَ عَلَى طَعَامِ  
وَاحِدِيْ فَأَدْعُ لَكَارَبَكَ يُهْرِجْ لَنَامِمَاتْنِيْتُ  
الْأَرْضَ مِنْ بَقِيلَهَا وَقَثَلَهَا وَفُؤَمَهَا  
وَعَدَسَهَا وَبَصِيلَهَا مَقَالَ اسْتَبَدَ لَوْنَ  
الَّذِي هُوَ أَدْنَى يَا لَذِيْ هُوَ خَيْرٌ  
إِهْبِطُوا مَصْرَأَقَاتَ لَكَمْ مَاسَالَتْخَرَ وَضَرِبَتْ  
عَيْهِمُ الدَّلَلَةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَبَاءَ وَيَغْضِبُ  
مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ يَا نَهْمَ كَانُوا  
يَكُفَّرُونَ يَا أَيُّتَ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ  
الَّتِيْنَ يَعْيِرُ الْحَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَمُوا  
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ <sup>(٥)</sup>

[1] Uhlobo olulodwa lokudla lwalungcono kunezinkinga ababhekana nazo edolobheni elaliseduze nabo.



## ISIGABA8.

**62.** Ngempela labo abakholwayo ( kweSikwembulele wena Muhammad ), nalabo abangama Juda, namaKrestu, namaSabiya<sup>[1]</sup>, noma ubani okholwa kuAllah nasoSukwini lokuGcina, futhi enze ukulunga, ngempela umvuzo wabo useNkosini yabo, futhi abazukuba navalo, abazukukhathazeka.

**63.** Bheka futhi Senza isivumelwano kanye nani, Senza iNtaba (iSinayi) yaqonga ngaphezu kwenu, (Sathi): «Bambelelani niqinise kulokho eSanembulela kona, futhi nikhumbule okuqu-kethwe lapho, ukuze nimesabe (uAllah)».

**64.** Kepha naphambuka nge-muva kwakho konke lokho! Uma futhi bekungayi ngomusa nesiahu sikaAllah kinina, ngempela naniyokuba ngabadukileyo.

**65.** Futhi niyazi kahle ngalabo phakathi kwenu abephula

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا  
وَالْتَّصْرِي وَالظَّبِيرُ مِنْ أَمَانَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا  
فَأَهْمَهُ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ<sup>(٤)</sup>

وَإِذَا حَذَّنَا مِنَاقِمُهُ وَرَعَنَا فَوْقَكُلُّ  
الظُّورِ تَخْذُلُ وَمَا آتَيْنَاهُمْ يَقُولُونَ  
وَإِذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعْلَهُمْ تَكْفُونَ<sup>(٥)</sup>

ثُمَّ تَوَكَّلُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَوْلًا فَضُلُّ  
اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ مِنْ  
الْخَيْرِ<sup>(٦)</sup>

وَلَقَدْ عَلِمْنَا إِنَّ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُلُونَ  
السَّبُّتْ فَقُلْنَا لَهُمْ

[1] Kubantwana bakaIsrayeli owathatha uboholi nguJuda, kwase kwanda kakhulu ukuthi bangamaJuda. Gen. 49:8.

Abalandeli bakaJesu baziwa ngokuthi amaNaswara (abaSizi), ngoba uJesu kungowase Nazaretha. Luke 2:36. Igama elithi Krestu elesiGriki, yiwona-ke lamaGriki aseAntiyokiya etha abalandeli bakaJesu ngokuthi amaKrestu. Izenzo 11:26.

AmaSabiya yisizwe saseEthopiya naseYaman, sake sabizwa ngokuthi yiShiba; sake sabuswa nguSolomon umPrefethi kanye neNkosazana yaseShiba. Funda 1 Amakhosi 10:1.

(umyalo) weSabatha, kweSakusho kubona Sithi: «Yibani izinkawu nizondeke!».

**66.** Ngakho-ke Sakwenza lokho kwaba yisibonakalso esikhathini sabo, futhi nasezizukulwaneni zabo ezizayo. Kuyisixwayiso futhi kulabo abesabayo (Allah).

**67.** Khumbula futhi uMose ethi esizweni sakubo: «Bheka! uAllah uyale ukuthi ninikele ngomhabelo wethole». Bathi: «Uhlekisa ngathi na?» Wathi: «O, Allah ngihlenge ngingabi phakathi kwabantu abangazi lutho!»

**68.** Bathi: «Sicellele eNkosini yakho ukuthi Isicacisele (yinkomoni) na?» Waphendula wathi: «Ithi ngempela yinkomazi en-genathole; nengencane kakhulu, ibe phakathi kwalezigaba zombili; ngakho-ke yenzani nje ngalokho niyaliwe».

**69.** Bathi: «Sicellele eNkosini yakho Isicacisele ukuthi ibe mbala muni na?» Wathi (uMose): «Ithi ngempela kube yinkomazi en-combo, embala ogqamile en-comekayo kwabayibonayo».

**70.** Bathi: «Sincengele eNkosini yakho Isicacisele ukuthi enjani na, lokhu bheka zonke izinkomo ziye fana kithina. Isifiso sethu

كُونُوا قَرَدَةً خَسِيْئِينَ ﴿٤﴾

فَجَعَلْنَاهَا كَالْأَلْمَابَيْنَ يَدِيهَا وَمَا  
خَلَقْهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِرَبِّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُ  
أَنْ تَذَبَّحُ بِعَبْرَةً قَالَ أَتَتَخْدِنَاهُ زُوْلَطَ  
قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِيلِينَ ﴿٦﴾

قَالُوا اذْعُنْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هَذِهِ  
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ  
وَلَا يَكُونُ عَوْنَوْنَ بَيْنَ ذَلِكَ فَاقْعُلُوهَا  
مَانُومُرُونَ ﴿٧﴾

قَالُوا اذْعُنْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا كَوْنَهَا  
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفِرَاءٌ  
فَاقْتُلُوهَا تَسْرُّ النَّظِيرِينَ ﴿٨﴾

قَالُوا اذْعُنْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هَذِهِ  
إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَّهُ عَيْنَاهَا

ngempela ukuholwa ngendlela  
(ecacile) uma uAllah Ethandile!»

71. (UMose) wathi: «Bheka, (uAllah) Uthi: ngempela kube yinkomazi engafundisiwe ukulima noma ukunisela amasimu. Ephilile engenasici». Bathi: «Manje ususilethele iqiniso!» Base beyanikela ngayo, noma babengasazimisele ngalokho.

### ISIGABA9.

72. Kwathi futhi senibulele umuntu, seniphikisana nodwa ngalokho, nokho uAllah Wembulela obala lokho enasenikufihla.

73. Ngakho-ke Sathi: «Mshayeni (umufi) ngesitho sayo (inkomazi, uzovuka). UAllah Ubavusa kanjalo abafileyo, futhi Unikhombisa izimpawu zaKhe ukuze nibe nokuqonda».

74. Nokho ngemuva kwalokho izinhliziyu zenu zaluhuni okwedwala, noma ukwedlulela ngobulikhuni: ngoba bheka, phakathi kwamadwala, kunalawo ethi imifula iqala igobhoza ibe isuka kuwo, futhi kunamanye aklayeka phakathi kuphume amanzi kuwo; kunalawo futhi azikayo ngokwesaba uAllah. Ngempela akusikona ukuthi uAllah Akakunakile enikwenzayo!

وَإِنَّمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْهَنَ وَنَّ<sup>④</sup>

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذُلُوكٌ شَيْءٌ  
الْأَرْضُ وَلَا نَسْقِي الْمَرْثَ مُسْلَمَةٌ لِّلشَّيْءَ  
فِيهَا قَاتُلُ الْأَنْعَامِ حِبْتَ بِالْحَقِّ فَدَّ بِحُوَّاهَا  
وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ<sup>⑤</sup>

وَلَا ذَكَرْتُمْ نَفْسًا فَإِذْ رَأَتُهُ فِيهَا  
وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ<sup>⑥</sup>

فَلَدَنَا أَضْرِبُوكُمْ بِعَعْضِهَا كَمْ إِلَّا يُنْجِي اللَّهُ  
الْمَوْتَ وَسُرْكِحُ الْيَتَهُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ<sup>⑦</sup>

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ  
كَالْجِارَةِ أَوْ أَشَدُّ فَسَادًا وَإِنَّ مِنَ الْجَارَةِ  
لَمَّا يَنْتَجُ جَرْمَنَهُ الْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا  
يَشْقَقْ فَيَغْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا  
يَهُبِطُ مِنْ حَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ  
عَمَّا تَعْمَلُونَ<sup>⑧</sup>

أَفَقْطَبِعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ  
فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْعَوْنَ كَلْمَ اللهُتْ  
يُحِرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا  
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ④

وَإِذَا قَوَى الَّذِينَ امْسَاقُوا لَوْ أَمْكَنَوا إِذَا  
خَلَأَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَعْتَدْنَا لَهُمْ  
بِهَا فَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَحْجُوكُمْ بِهِ عَنْ  
رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑤

أَوْلَاءِ الْعَالَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ  
وَمَا يُعْلَمُونَ ⑥

وَمِنْهُمْ أُمَّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ  
إِلَّاً أَمَانَ فَلَنْ هُمْ إِلَّا يَظْهُونَ ⑦

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ يَا يَدِيهِمْ  
ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرِوْا  
بِهِ ثَمَّا قَاتَلُوا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مَنْ تَبَتَّ  
أَيْنِ يَهُ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مَنْ أَيْسَرُونَ ⑧

75. Ninalo yini ithemba lokuthi bazonikholwa njengoba abanye phakathi kwabo balizwa Izwi lika Allah, base belona ngamabomu emveni kokuliqonda kahle futhi benolwazi na?

76. Bheka! Uma bekanye nabakhholwayo, bathi: «Siyakholwa (njengani), kepha uma sebebodwa ekusithekeni (abangakholwa) bathi: «Ngabe besenibatshela yini ngalokho uAllah Akwembula kinina, (futhi) hleze baqhudelane nani phambi kweNkosi yenu. Anikuqondi yini (lokho) na?»

77. Abazi yini ukuthi uAllah Uyakwazi lokho abakufihlayo nalokho abakwembulayo na?

78. Futhi phakathi kwabo kurnalabo abangafundile abangayazi iNcwadi ngaphandle kwalokho okusyizifiso<sup>[1]</sup> (zabo), futhi bona abenzi lutho ngaphandle kokungathekisa.

79. Yeka usizi kulabo abazibhalela incwadi ngezandla zabo, base bethi: «Lena ivela kuAllah», beqonde ukuzitholela inzupo encane ngayo. Wo! Usizi kubona ngalokho izandla zabo ezikulobile, yeka futhi usizi ngalokho abaku-zuza ngayo.

[1] Noma izinhloso zabo.

**80.** Futhi bathi: «Umlilo (wesijeziso) awuzusithinta, ngaphandle kwento yezinsukwana nje ezimbalwa». Yithi (kubona): «Nithole isiqinseko kuAllah yini-njengoba Yena Engasephuli isethembiso saKhe, noma mhlawumbe nikulumka eningakwazi ngoAllah na?»

**81.** Yebo! Labo abazuza ngesono, lesosono sibakakile yibonake abayokuba yiqembu elisemlilweni (wesihogo), lapho beyohlala khona (njalo).

**82.** Kepha labo abakholyo benze nemisebenzi emihle, labo-ke bazokuba yiqembu laseJannat (Paradesi)<sup>[1]</sup>, bayophila ngonaphakade kuyo.

### ISIGABA10.

**83.** Nikhumbule futhi Senza isivumelwano nabantwana bakwa Israyeli (esithi): «Ningakhonzi luthe ngaphandle kukaAllah, futhi niphathe kahle abazali benu, nezihlobo, nezintandane, kanye nabadingayo. Nikhulume kahle nabantu, futhi nigcine umthandazo, nisisele abampofu (zakat)». Khona lapho nahlehla nyova, ngaphandle kwesigejane phakathi kwenu, futhi (iningi) laqembuka.

وَقَالُوا لَنْ تَمْسَأَ النَّارُ إِلَّا إِيَّاهَا مَعْدُودَةٌ  
قُلْ أَتَخَذُ شُرُّعَنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ  
يُنْكِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ كَمَا أَمْرَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ  
مَا لَا يَعْلَمُونَ<sup>(٤)</sup>

بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَاتٍ وَاحْكَمْتُ يَهِ  
حَسِينَاتٍ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ<sup>(٥)</sup>

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا  
خَلِدُونَ<sup>(٦)</sup>

وَإِذَا حَدَّنَا مِيقَاتَكَ بَيْنَ أَسْرَاعِينَ  
لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ تَوَالِدُ الَّذِينَ  
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى  
وَالْمَسَاكِينُ وَقُولُوا لِلَّهِ مَا يُحِسِّنُ  
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنُو الْرَّكُوعَ  
ثُمَّ تَوَكِّلُمُ إِلَّا قِلِيلٌ لِمَنْ كُمْ  
وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ<sup>(٧)</sup>

[1] I-Jannat noma iParadesi, yisivande sakweLizayo.

84. Futhi nikumbule ise the-mbiso eSasenza nani (esithi): «Ningachithi igazi phakathi kwe-nu, futhi ningadingisani emizini yenu: lokhu nakwemukela futhi nani ningofakazi (bakho lokhu)».

85. Kunalokho, yinina uqobo enibulalana nodwa, nidingisa abanye benu emizini yabo, nilekelela-na nodwa ngesono, niphambana nabo ngenzondo<sup>[1]</sup>. Uma beza kinina njengabathunjwa nibakhokhele ukuba bakhululwe, njengoba ukubadingisa kwenu kwakungagunyaiwe. Nikholwa yinxenyen yomBhalo, enye aniyikholwa na? Uyini umvuzo walabo abaziphatha kanjena phakathi kwenu, akulona yini ihlazo empilweni yaku-lomhlaba na? NgaloloSuku loku-buka (kwabafleyo) bayothola isijeziso esibuhlungu kakhulu. Ngokuba uAllah akakukhohliwe konke enikwenzayo.

86. Banjalo - ke labo aba fu-mbeth<sup>[2]</sup> impilo yakulomhlaba kunempilo yakweLizayo. Isijeziso sabo asizuncishiswa, futhi abazu-lekelelwa.

وَلَاذْ أَحَدُنَا مِنْتَاقْلُمَ لَأَسْقِكُونَ  
دَمَاءُكُمْ وَلَا نُخْرُجُونَ أَنْسَكُمْ مِنْ  
دِيَارِكُمْ شَهَادَرُهُ وَأَنْتُمْ  
تَشَهَّدُونَ ﴿٧﴾

ثُمَّ آتَنَّهُمْ هُوَلَاءَ قَتَلُونَ أَفْسَكُمْ  
وَنُخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ  
ظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَنْوَافِ وَالْعُدُوانُ وَلَنْ  
يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تَهْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَمَّرٌ  
عَلَيْكُمْ أَخْرَاجُهُمْ أَقْوَمُونَ بِعَيْضٍ  
الْكِتَبِ وَتَلَفُّونَ بِعَيْضٍ فَمَا جَزَاءُ  
مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمُ الْأَخْرَى فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى آشَدِ  
الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
عَمِلُونَ ﴿٨﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخْفَقُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ  
وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٩﴾

[1] Lapha kukhulunyuwa ngezizwe ezimbili zamaJuda kwaBanu Quraizah, nakwaNazir ezazilwa zombili zilekelelwa abahlobo bazo bamaArab.

[2] Abathenga impilo yakulomhlaba ngempilo yakweLizayo.

## ISIGABA11.

87. Ngempela Samnika uMose iNcwadi, futhi Salandelisa nangezinye iziThunywa emva kwakhe, Sanika futhi uJesu indodana kaMariya izibonakaliso ezicacile, Samqinisa ngoMoya oyiNgcwele. Akwenzeki yini ukuthi uma kufika uMprofethi kinina nalokho eningakufuni niziqhayise, abanye nithi abakhohlisi, futhi abanye nibabulale na?

88. Bathi: «Izinhlizyo zethu zifumbethe (amazwi kaAllah; kwenele), uAllah wabaqalekisa, ngoba bengakholwa. Kuncane kabi abakhohlwa yikho».

89. Uma futhi kufika kubona uMbhalo ovela kuAllah, ukugcwalisa lowo abanawo<sup>[1]</sup>, nakuba ngaphambili babefuna ukunqoba labo abangakholwa, kwathi sekufike abakwaziyo benqaba ukukholwa yikho. Ngakho-ke isiqalekiso sikaAllah siphezu kwalabo abangakholwa.

90. Kubi lokho abanikele<sup>[2]</sup> imiphefumulo yabo kukho, ngo-kuphika lokho uAllah Akwembu-

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَيْدُنَا مِنْ  
بَعْدِهِ بِالرَّسُولِ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  
الْبَيْتَ وَأَتَيْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ إِنَّا كُلُّمَا  
جَاءَهُ كُرْسُوْلٌ بِهَا لَا تَهُوْيَ أَنْفُسُكُمْ  
إِسْكَنَدْرَةَ حَفَرَ يَقَانِكَ بِمُهُ وَقَرِيقًا  
نَقْتَلُونَ ﴿٦﴾

وَقَاتُلُوا قُلُوبَنَا عَلِمْتُ بِلَعْنَهُمُ اللَّهُ  
يَكْفُرُهُمْ فَكَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَبْ مِنْ عِنْدِنَا اللَّهُ  
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا إِنْ قَبْلُ  
يَسْتَقْبِلُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ  
جَاءُهُمْ مَاعْرُوفٌ وَالْكَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ  
عَلَى الْكُفَّارِ ﴿٨﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[1] I-Kur'an umbhalo oNgcwele ophelelisiwe, ozogcwalisa, futhi ozofakazela eminye imibhalo yabaProfethi basendulo.

[2] Abathengisele impifemulo yabo kukho.

lile, benziwa umona ngalokho uAllah Akwembule ngomusa waKhe kulabo abathandileyo ezincekwini zaKhe<sup>[1]</sup> futhi-ke bazidalela ulaka phezu kolunye ulaka. Kulabo futhi abangakholwa kunesijeziso esihlazisayo.

**91.** Ngokuba uma kuthiwa kubona: «Kholwani kulokho uAllah Akwembulile», bathi: «Sikhola yilokho okwembulwa kithina (kuphela)» kepha bengakholwa yilokho (okuze) ngemuva kwakho, nakuba kuyiqiniso elifakazela lokho abanakho<sup>[2]</sup>. Yithi: «Nani babulalelani abaProfethi bakaAllah emandulo, uma (ngempela) ningamakholwa na?»

**92.** Futhi uMose weza kinina nezibonakaliso ezicacile, noma kunjalo nakhonza ithole (legolide) engekho, futhi naziphatha kabi.

**93.** Nikhumbule futhi Senza isivumelwano nani, futhi Senza intaba yaqonga kunani. (Sathi): «Bambelelani ngobuqotho kweSannika kona, futhi nilalele!» (Kepha) nathi: «Sivezwa, futhi siyaleqa izwi». Ngokuba kwase kuzike ezinhliziyweni zabo ukul-

أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَأْتُ وَ  
يُغَصِّبُ عَلَى غَصَبٍ وَلِلْكُفَّارِينَ  
عَذَابٌ مُهِمِّنٌ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا  
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُنَّا وَهُوَ الْحَقُّ  
مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَفْسِلُونَ  
أَتَيْنَاكُمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبُيُّنَاتِ  
أَتَخْدِدُ تُمُّ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ  
ظَلَمُونَ

وَلَدُّ أَخَذْنَا مِنْكُمْ  
فَوْقَكُمُ الطُّورِ حُدُودًا مَا أَتَيْنَاكُمْ  
بِقُوتَةٍ وَاسْمَعُوا قَاتُلُوا سَمِعْنَا  
وَعَصِيَّنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ  
الْعِجْلَ

[1] Abathandekayo kuAllah yilabo abakholwa abaProfethi basendulo, balandele nomProfethi wokugina uMuhammad (Ukuthula kuge kuye).

[2] Uhlelo olutusekayo kuAllah uMdali, ukuthi isintu sonke simthobe. Imithetho iyefana okumele igcinwe yibo bonke abantu.

khonza ithole, ngoba babengakholwa. Yithi (kubona): «Kubi lokho enikuyalwa yinkolo yenu, uma ningamakholwa!»

**94.** Yithi: «Uma ikhaya lo-kugcina kuAllah kungelenu nodwa hhayi abanye abantu, ziceleleni-ke ukufa uma niqinisile!»

**95.** Kepha bangeke bafune ukufa, ngenxa yemisebenzi eseyathunyelwa yizandla zabo. UAllah Uzazi kahle izoni.

**96.** Ngempela uzobathola phakathi kwabo bonke abantu, behalela impilo (yakulomhlaba) kakhulu, ukwedlula ngisho labo abakhonza izithixo. Emunye kubona ufisa engathi agngaphila iminyaka eyinkulungwane, futhi noma enikwa impilo ende, ayisoze yamphephisa ekujezisweni: ngoba uAllah Ubona konke abakwenzayo.

### ISIGABA12.

**97.** Yithi (Muhammad): «Lowoyisitha sikaGabriyeli, ngokuba elethe ngeqiniso (isambulo) enhliziyweni yakho ngentando kaAllah, ukugcwalisa lokho (okwembulwa) ngaphambi kwa-kho, sibe sihola futhi silethe izindaba ezimnandi kulabo abakholwayo».

بِكُفْرِهِمْ قُلْ يَسْهِلَّا يَا مُرْكُمْ يَا  
إِنَّمَا نُنَخِّلُ أُنَّ لَنْتُمْ مُّؤْمِنُينَ ④

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدُّرُّ الْآخِرَةُ عِنْدَ  
اللَّهِ خَالِصَةً مَنْ دُونَ النَّاسِ فَتَمَّوْأِ  
الْمَوْتُ إِنْ لَنْتُمْ صَدِيقِينَ ⑤

وَلَنْ يَتَمَّوْأِ ابْدَأْيَهَا قَدَّمَتْ  
أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالظَّلَمِينَ ⑥

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحَرَّ الصَّنَاعَاتِ عَلَى حَيَاةِ  
وَمَنِ الَّذِينَ أَشْرَوْا يَوْمًا حَدُّهُمُ الْلَّوْ  
يُعَتَّرُ الْفَسَقَةُ وَمَا هُوَ بِرَحْمَةٍ مِّنْ  
الْعَذَابِ أَنْ يُعَتَّرَ وَاللَّهُ بِصِيرَتِهِمَا  
يَعْلَمُونَ ⑦

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلْجَبَرِيلَ فَإِنَّهُ  
نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ يَادُنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا  
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى  
وَبُشْرَى لِلْمُوْمِنِينَ ⑧

مَنْ كَانَ عَدُوا لِلَّهِ وَمَلِكَتْهُ وَرَسُولِهِ  
وَجَبَرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ  
عَدُوٌ لِلْكُفَّارِ<sup>٤٧</sup>

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا  
يَكُفُّرُ بِهَا إِلَّا الْفَسِقُونَ

أَوْلَئِكَمَا عَاهَدُوا عَاهَدًا اسْتَبَنَّا فَرِيقٌ  
مِنْهُمْ بَلْ الْكَثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ<sup>٤٨</sup>

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُ حَنِيدٌ فَرِيقٌ قَرَنَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِكِتَابِ اللَّهِ وَرَأَءَ  
ظُهُورُهُمْ كَانُوكُمْ لَا يَعْلَمُونَ<sup>٤٩</sup>

وَأَئَ بَعْدَهُمْ أَتَتْلُو الشَّيْطَانُ  
سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ  
الشَّيْطَانُ كَفَرَ وَأَعْلَمُونَ النَّاسَ  
السِّحْرَةُ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ  
بِإِيمَانٍ

**98.** Noma ubani oyisitha si-kaAllah nezingelosi, neziThunywa zaKhe, noGabriyeli noMikhayeli! Bhekake! UAllah Uyisitha kulabo abangakholwa.

**99.** Empeleni Sikuthumele imibiko ecacile, futhi abekho abayiphikayo, ngaphandle kwalabo abayizoni.

**100.** Akuthi njalo uma benza isivumelwano, elinye iqembu labo lisichithe na? Iningi labo abakholwa neze!

**101.** Kwathi lapho sekufike isiThunywa sikaAllah kubona si-zogcwalisa<sup>[1]</sup> lokho ababenakho, iqembu elalithole iNcwadi phakathi kwabo, layilahla iNcwadi kaAllah, layifulathela yangemuva kwemihlane yabo, kwangathi abanalwazi (ngayo).

**102.** Balandela lokho okwashiwo osathane ngenzondo yombuso kaSolomoni, ngempela uSolomoni wayengesiy umuntu ongakholwa, kepha osathane ababengakholwa, befundisa abantu imilingo<sup>[2]</sup>, kanye nalokho okweh-

[1] Ngempela uJesu (ukuthula kube kuye) wayezogcwalisa okusemthethweni, bangamamukela; yena wayesebika ngomunye emuva kwakhe, waze wabika nokuthi lowo uzanalo lonke iqiniso.

[2] Imilingo ayivumelekile, amaJuda agxila kuyona ayilahla inkolo kaAllah, futhi ahlambalaza ngoSolomoni umProfethi (ukuthula kube kuye) ngendlela eyesabekayo.

lela ezingelosini uHarut noMarut eBabele, nakuba zingazange zinfundise muntu ngaphandle kokuthi: «Thina size nezivivinyo (ngezono), ningayidikili inkolo!» Kepha lokho abakufunda kulaba bobabili bakusebenzisela ukwahlu-kanisa indoda nomkayo. Kepha abakwazanga ukonela noyedwa ngalokho, ngaphandle kwemvume kaAllah. Ngempela bafunda okuba lahlekiselayo, futhi okungesiyo inzuzo kubona, ngempela bebazi ukuthi umthengi (wemilingo) akayikuba nasabelo (esihle) kwe-Lizayo. Mubi ngempela lowo mvuzo abanikele umphefumulo wabo ngawo, ukube bebazi!

هَارُوتْ وَمَارُوتْ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ  
حَتَّىٰ يَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُّرْ  
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَقْرَئُونَ يَهُ بَيْنَ  
الْمَرْءَةِ وَرَوْجَاهُ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ يَهُ مِنْ  
أَحَدٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا  
يَصْرُّهُمْ وَلَا يَنْقَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا  
لَمَنِ اشْرَأَنَّهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  
خَلْقِنَا لَمْ يَكُنْ مَّا شَرَوْا يَهُ آنفُهُمْ  
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ④

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمْنَوْا وَاتَّقُوا الْمُنْتَوْبَهُ مِنْ  
عِنْدِنَا اللَّهُ حَدِيدٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ⑤

**103.** Uma bagcina ukholo lwabo, futhi begwema nobubi, ubuyokuba ngcono ngempela umvuzo (wabo) kuAllah, ukube bebazi!

### ISIGABA13.

**104.** O, nina enikhholwayo! Ningasho (kuMprofethi) ukuthi: «Bukela kithina»<sup>[1]</sup>, kepha anokuthi: «Sibheke», futhi nimlalele, ngokuba abangakholwa bazothola isijeziso esibuhlungu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعَنَا  
وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلَا لِكُفَّارِينَ  
عَذَابُ الْيَمِّ ⑥

[1] Igama elithi «ra'ina» (sibheke), amaJuda ayeliguqulela kwelithi «rayna» (bukela kithina), begcona umProfethi (ukuthula kube kuye). UAllah Wabaqokela elithi «unzurna» (sibheke).

**105.** Akusona isifiso salabo abangakholwa, kulabo bantu beNcwadi nabakhonza izithixo, ukuthi kube khona okuhle okwehlela kinina kuvela eNkosini yenu, kepha uAllah Ukhethela umusa waKhe lowo Amthandileyo, ngempela uAllah UyiNkosi yomusa ongapheliyo.

مَا يَوْدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  
وَلَا الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُثْرِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ  
حَيْثُ مِنْ رَّيْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ  
الْعَظِيمُ ﴿٤٥﴾

**106.** Ayikho imibiko<sup>[1]</sup> Yethu eSiyicimayo, noma eSenza niyikhohlwe, kepha Siletha engcono noma efana nayo. Awazi yini ukuthi uAllah Unamandla phezu kwezinto zonke na?

مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِّيَّهَا تَأْتِيْكُمْ مِنْهَا  
أَوْ مُنْتَلِهَا إِنَّ اللَّهَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ ﴿٤٦﴾

**107.** Awazi yini ukuthi ungokaAllah ngempela uMbuso emazulwini nasemhlaben na? Futhi ngaphandle kukaAllah aninamngane, noma umlekeleli?

إِنَّ اللَّهَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا الْكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَنْ  
قَرِيلٌ وَلَا نَصِيرٌ ﴿٤٧﴾

**108.** Kumbe ningamfaka yini imibuzo uMprofethi wenu, njenegalokho uMose wayebuzwa kudala na? Ngempela lowo ophen-dukayo abe ongakholwa nge-muva kokuba ekholwa, ulahlekile ngempela endleleni esobala.

أَمْرُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا  
سُيِّلَ مُؤْسِي مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَتَبَدَّلْ  
الْكُفَّارُ لِلْأَيْمَانِ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَّيْئِيلُ ﴿٤٨﴾

[1] UNkulunkulu Usibikela njalo ngezimpawu zaKhe, imfundiso iyodwa kaAllah kepha ikhula nesigaba sentuthuko yabantu yaze yapheleliswa kwi-Kur'an: nje ngalokho abantu sebesezingeni eliphakeme ngobuchwephesh.

**109.** Iningi labantu beNcwadi lifisa ukuniguqulela ebuqabeni ngemuva kokuba senikholiwe, lenziwa umona nokuzicabangela lona lodwa, ngemuva kokuba iqiniso elisobala selafika kubona. Nokho thethelelani ninganaki, kuze kufike umyalo kaAllah. Ngempela uAllah Unamandla phezu kwezinto zonke.

**110.** Ngempela melani umthan-dazo, nisisele abampofu, ngokuba noma yikuphi enikwenzayo kwan-dulela imiphefumula yenu, niyo-kufica kuAllah. Ngempela uAllah Ubona konke enikwenzayo.

**111.** Futhi bathi: «Akekho oyongena ejannat (Paradesi)<sup>[1]</sup> ngaphandle uma engumJuda noma umKrestu». Yizifiso zabo lezo (eziyize). Yithi: «Vezani ubufakazi benu uma nineqiniso!».

**112.** Lutho! Noma ubani ozini-kele ngakhokonke kuAllah, futhi enza ukulunga uyothola umvuzo wakhe eNkosini yakhe; ngempela (labo) abasezukuba naluvalo, abasezukukhathazeka.

#### ISIGABA14.

**113.** Nangaphezu kwalokho amaJuda athi: «AmaKrestu awa-

وَذَكَرُتِهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْيَرْدُونْكُمْ  
مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا هَسْدًا مِنْ عَنْدِ  
أَنفُسِهِمْ وَمِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ  
الْحَقُّ فَلَا خَفْوًا وَأَصْفَحُوا حَلْلَيْهِ  
اللَّهُ يَأْمُرُهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَوِيرٌ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّوِّلِ الزَّكُوْنَةَ وَمَا  
نَفَدَ مُؤْمِنًا لِنَفْسِكُمْ مِنْ حَيْثُ شَاءُونَ وَمِنْ  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وَقَالُوا لَنَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ  
هُوَدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا تِلْكَ أَمَانَتِهِمْ قُلْ  
هَانُوا بِرَهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

بِلَّا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ غُنْيٌ  
فَلَمَّا آتُهُمْ أَجْرًا عَنْ دَرَيْهِ وَلَكَوْنُ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ التَّصْرِيْتَ عَلَى شَيْءٍ

[1] I-Jannat yiParadesi noma insimu nendawo yasekuqaleni.

وَقَالَتِ النَّصْرِي لَيْسَ إِلَيْهِمُ دُولَةٌ عَلَى شَيْءٍ  
وَهُمْ يَتَّلَوُنَ الْكِتَابَ كَذِيلَكَ قَالَ الَّذِينَ  
لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ  
بِيَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُبَشِّرُونَ  
يَعْتَلِقُونَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ تَنَعَّمَ سَجِدًا لِلَّهِ أَنْ  
يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَمِعَ فِي حَرَابِهَا  
أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْعُوا هَذَا  
حَلْقَيْفَيْنَ هَذُهُمْ فِي الدُّنْيَا خَرُّ وَلَهُمْ  
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

nasisekelo», kanti namaKrestu athi: «AmaJuda awanasisekelo», kepha bangabafundi beNcwadi<sup>[1]</sup>, kanjalo labo abangenalwazi basho amazwi afana nalawo abawashoyo. Ngakho uAllah Uzobehlulela ngoSuku lokuvuka kwabafileyo, mayelana nalokho abaphikisana ngakho.

**114.** Ubani lapha oduke kakhulu kunalowo ovimba ukuthi ezindaweni zenkonzo kaAllah kudunyiswe igama lakhe<sup>[2]</sup>, none-nhoso yokubenzela phansi na? Ingani labo babengafanele ukungena lapho (eMasjid)<sup>[3]</sup> ngaphandle kwalabo abanovalo. Bayohlazeka labo kulomhlaba, futhi nakweLizayo bathole isijezi-so esibuhlungu.

**115.** Ngempela ingekaAllah impumalanga nentshonalanga, futhi noma ngabe uphendukela ngakuphi, uphambi kobuso bukaAllah khona lapho. Bheka! UAllah Undawo zonke, Wazi konke kabanzi.

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ قَائِمًا تَوْلُوا  
فَلَمَّا وَجَهَ الْمَطَافَ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

[1] INcwadi yinye abayifundayo, kepha bayaphikisana. Abanye phakathi kwabo basekuphikaneni kepha bengenalwazi.

[2] AmaArab angakholwa kuAllah, ayengathandi ukuthi abanye baM-khonze.

[3] I-Masjid yindlu yomkhuleko.

**116.** Futhi bathi: «UAllah Wa-zitholela (wazala)<sup>[1]</sup> indodana». Makangcweliswe Yena! Akunjalo, konke okusemazulwini nasemhlabeni kungokwaKhe: kuthobela nentando yaKhe.

**117.** UnguMdali wamazulu nomhlabo, futhi uma Emisa udaba oluthize Uyaye Athi: «Yenzeka!» - besekwenzeka.

**118.** Futhi labo abangenalwazi bathi: «Kungani uAllah En-gakhulumi kithina, noma kufike kithina izimpawu na?» Njengoba behkuluma nje, nalabo besendulo babenenkulumo enjengalena. Izinhliziyu zabo ziye-fana. Ngempela Siyenze yacaca imibiko kulabo abaqinisekile.

**119.** (O, MproFethi) Sikuthumile ngeqiniso ukuze uben-gumthwali wezindaba ezimnandi, nomxwayisi, kepha awuzubuzwa lutho ngeqembu lomlilo wesihogo.

**120.** AmaJuda namaKrestu aw-asoze athokoza ngawe, ngaphandle uma uzolandela inkolo

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَسُبْحَانَهُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُنَّ لَهُ فَيَنْتَوْنَ<sup>(١٩)</sup>

بَدِيعُ الشَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُوَ إِذَا أَقْضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ<sup>(٢٠)</sup>

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يَحْكُمُنَا اللَّهُ أَوْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِآيَةٍ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُهُمْ قَوْلُهُمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَاهُ الْآيَتِ لِقَوْمٍ مُّؤْمِنُونَ<sup>(٢١)</sup>

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِّرْيًا وَنَذِيرًا وَلَا سُئِلَ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحَّافِ<sup>(٢٢)</sup>

وَلَئِنْ تَرْضِيَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالظَّرِى حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ

[1] UAllah Akazali, kepha Uyadala kuphela. Izisho ezithi «Amadodana» kaNkulunkulu Gen. 6:4, nakuMath. 6:9 «Baba wethu»; azisetshenziswa esambulweni lesisokugcina: ngoba sezasetshenziswa ngendlela engaqondile.

هُوَ الْهَدِيٌّ وَلَيْسَ بِالْبَعْتَ أَهْوَاهُمْ بَعْدَ  
الَّذِي جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ  
مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ ﴿٦﴾

yabo. Yithi: «Bheka! Ukuholwa nguAllah yikona kuholwa (kwe-qiniso)». Ngempela futhi uma ungase ulandele izifiso zabo ngemuva kolwazi oselufike kuwe, ungeze waba namvikeli noma umlekeleli ovela kuAllah.

**121.** Kulabo eSabathumela iN-cwadi, abayifunda ngeqiniso eli-kuyo, laboke bakholelwa kuyo; kodwa abangakholelwa kuyo, yibona labo abalahlekelwayo<sup>[1]</sup>.

الَّذِينَ اتَّبَعُوكُمْ إِنَّكُمْ لَتَلُونُهُ حَقَّ تِلَاقِتِهِ  
أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الظَّاهِرُونَ ﴿٧﴾

### ISIGABA15.

**122.** O, bantwana bakwaIs-rayeli! Khumbulani umusa waMi Enganenzela wona, nkuthi Ngani-khetha kuzozonke izizwe (uku-dlulisa imiyalo yaMi).

يَبْنَىٰ إِسْرَائِيلُ اذْكُرُوا نَعْمَقَيَ الْيَقْنَىٰ أَنْهَمُ  
عَلَيْكُمْ وَآتَيْتُكُمْ سُلْطَنَةً عَلَى الْعَبَّادِينَ ﴿٨﴾

**123.** Futhi nesabe loloSuku lapho umphefumula ungesusiza omunye ngalutho, ngisho nesinxephelo singena kwamukelwa kuwo, ngisho ukuncengelwa kungeze kwaba wusizo kuwona, futhi engekho onokulekelewa.

وَأَنْقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ حَمْنَقٌ شَيْئًا  
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا  
شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٩﴾

**124.** Futhi (nikhumbule) uAbraham wavivinywa yiNkosi yakhe

وَإِذْ أَبْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلْمَتٍ فَأَتَتَهُنَّ

[1] Lelivesi likhuluma ngamaKrestu aseAbysiniya (Ethopiya), ayehamba noJafar ka-Twalib ukuya emzini waseMadina lapho bafike bamukela khona ukuholwa ngumProfethi uMuhammad ((ukuthula kube kuye).

ngemiyalo wayigcina<sup>[1]</sup>. Yathi: «Bheka Ngizokwenza ubengumholi wesintu». (uAbraham wacela) wathi: «Kanye nozalo lwami?» (INKosi) yathi: «Kepha isethembiso Sami asizufinyelela neze kulabo abonayo».

**125.** (Nikhumbule) futhi, Samisa Indlu (eMakkah) njengendawo yokuhlanganelo isintu, nephephile; (Sathi): «Thathani isimiso sikaAbraham njengenda wo yomkhuleko. Senza futhi isivumelwano noAbraham noIsmayeli, (esithi): «Indlu yaMi, bayihlanzele labo abajikeleza kuyo (ngomkhuleko), noma abahlala kuyo izinsuku (ezithile) bejule ngomkhuleko, naba-khothama bawe ngobuso (bekhuleka)».

**126.** Khumbula futhi mhla uAbraham ethandaza ethi: «O, Nkosi yaMi! Yenza lelidolobha kube eliphophile, futhi Wondle nabantu abakulo ngezithelo, labo abakholelwa kuAllah nasoSukwei ni lokugcina». Wathi (uAllah):

قَالَ إِنِّي جَاعَلْتُ لِلثَّالِثِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذُرْتَ إِنِّي قَالَ لِكَيْتَلُ عَهْدِي الظَّلَمِيْنَ

وَأَذْجَعْلُنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلثَّالِثِ وَأَمْمَانَ وَأَتَخْذُ وَأَمْمَنْ مَقَامَ إِرْهَمَ مُصَفِّلَ شَعْبَانَ إِلَى إِرْهَمَ وَأَسْعِينَ أَنْ طَهَرَ إِيْتَيَ لِلظَّلَمِيْنَ وَالْعَلَيْكِيْنَ وَالرُّؤْبَعَ السُّجُودُ

وَإِذْ قَالَ إِرْهَمُ رَبِّيْ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا الْمَنَاءَ قَارِبًا أَهْلَهُ وَنَسْرَاتَ مَنْ أَمَّنْ مُنْمُ يَأْتِهِ وَالْيَوْمَ الْأَخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعْهُ قَلِيلًا تُضَطَّرُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

[1] (a) Ukukhonza uAllah yedwa. (b) Ukuchitha izithixo. (c) Ukushumayela iqiniso ebhekene nokulifela. (d) UKusuka kwelakubo nakubantu bakubo eholwa nguAllah. (e) UKunikela ngendodana yakhe, nokushiya uIshmayeli nomkakhe uHajar (Hagar) ehlane laseParan (Makkah). (f) Ukwakha indlu yomkhuleko kaNkulunkulu, nokunye okuningi.

«Nalowo ongakholwa Ngizomjabilisa okwesikhashana, bese Ngimdudulela ekujezisweni ngomlilo: futhi sibi kakhulu isiphetho esinjalo!»

**127.** Khumbulani futhi uAbraham noIshmayeli bephakamissa izinsika zendlu<sup>[1]</sup> (bethi): «O, Nkosi yethu! Amukela (lomsebenzi) wethu, ngempela Wena Uzwa konke, Wazi konke!»

**128.** «O, Nkosi yethu! Senze sibe ngamaMuslim (abathobelaintando yaKho), nozalo lwethu lube yisizwe esikuthobelayo, futhi Sibonise izindlela zethu zokukhonza<sup>[2]</sup>, futhi Usithethelele, ngoba ngempela, nguWena wedwa onguMthetheleli, Onomusa.

**129.** «O, Nkosi yethu! Uvuse phakathi kwabo isiThunywa esizobalethela imibiko yaKho, futhi sibafundise ngemiBhalo eNgcwele,

وَإِذْ يَرْقَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْعِدُهُ  
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ التَّسْمِيهُ الْعَلِيُّ<sup>[١٦]</sup>

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّنَا  
أَمْمَةً مُسْلِمَةً لَكَ وَارْتَأْمَنَّا سَكَنًا وَتَبْ  
عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ<sup>[١٧]</sup>

رَبَّنَا وَاجْعَلْ فِيهِمْ رَسُولًا مُنَهَّجَيْتُو  
عَلَيْهِمْ أَيْتَكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

[1] Lendlu isedolobheni laseMakkah ezweni laseArabiya, ibizwa ngokuthi yika'ba. Kusobala ukuthi uJesu ngesikhathi etshela amaJuda ukuthi azophucwa umbuso kaNkulunkulu unikezwe esinye isizwe: yiso lesisizwe esiwuzalo lukaIshmayeli esingabafowabo bamaJuda amaArab, ngokuba uAbraham wathenjiswa Gen. 26:4. AbakwaIsrayeli kuDut. 18:18-19. Waphinda uJesu wabakhumba za kuMat. 21:42-43. UmProfethi okwagcwaliyeku kuye konke lokhu nguMuhammad.

[2] Lapha uAbraham (ukuthula kube kuye) wayecela izindlela ezimsulwa zokukhonza uNkulunkulu uAllah.

nangobuhlakani, sibuye sibahla-nze<sup>[1]</sup>: ngokuba ngempela nguW-ena kuperha Onamandla, Onobuhlakani!».

### ISIGABA16.

**130.** Ubani ngempela olahle inkolo kaAbraham, uma kungsisiye ohlaza umphefumula wakhenan? Bheka futhi Samkhetha kulomhlaba, nakweLizayo bheka uzoba kanye nabalungileyo.

**131.** Bheka! INkosi (yakhe uAllah) Yathi kuye: «Zinikele!» Wathi: «Ngizinikele eNkosini edale amazwe onke jikelele».

**132.** (Ngempela) futhi uAbraham wayala amadodana akhe kanjalo, (kanye) noJakobe (wathi): «Madodana ami! Bhekani uAllah Unikhethelo inkolo (yeqiniso), ngakho-ke ningalinge nificwe ukufa ningewona amaMuslim (abazinikele kuAllah)»<sup>[2]</sup>.

**133.** Kungabe nanikhona yini lapho ukufa kumfica uJakobe na? Lapho ebuza emadodaneni akhe (ethi): «Yini enizoyikhonza emva

وَيَرْكِعُهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وَمَنْ يُرْغَبُ عَنْ مَلَكَةِ إِبْرَاهِيمَ الْأَمْرِ سَفَرَةَ  
نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا  
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَيْسَ الصَّلِحُونَ

إِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ  
الْعَلَمِينَ

وَوَضَى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بْنَيَتِهِ  
إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لِكُلِّ الِّدِينِ فَلَا تَنْبُغِنْ إِلَّا  
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

أَمْ كُنْتُمْ شَهِيدًا آتَاهُ دُخْنَ حَضَرَ يَعْقُوبَ  
الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ  
بَعْدِي قَاتُلُوا وَاعْبُدُ إِلَهَكُمْ وَإِلَهَنَا إِلَيْكُمْ

[1] UAbraham (ukuthula kube kuye) wayekhulekela labo abakholwayo ukuthi kuvele phakathi kwabo umProfethi ozobahlambulula. Lomkhuleko waphendulwa ngoMuhammad ongowozalo lukaIshmayeli (ukuthula kubo kubona).

[2] AbaProfethi bonke babe ngamaMuslim okuchaza ukuzinikela kuAllah.

إِبْرَهِيمَ وَلِاسْمَاعِيلَ وَاسْحَقَ الرَّاهُوْنَ وَاحْدَهُ  
وَتَعْنُونَ لَهُ مُسْلِمُونَ<sup>(٢)</sup>

kwami na?» Athi: «Sizokhonza uNkulunkulu wakho, uNkulunkulu wobaba bakho oAbraham, noIshmayeli, noIsaka, futhi uNkulunkulu Oyedwa thina esizinikela kuYe (njengamaMuslim)».

يَا أَيُّهُمْ أَنْذَرْنَا قَدْ خَلَقْتَ لَهُمَا مَا كَيْدُهُ  
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>(٣)</sup>

**134.** Laba abantu asebadlula kuleli. Bazomukeliswa izithelo zalokho abakusebenzela, nani ngalokho enikwenzayo! Futhi anizubuzwa ngezenzo lezo abazenza<sup>[1]</sup>.

**135.** Bathi futhi: «Yibani amaJuda» noma nibe «amaKrestu ukuze niholwe (kahle)». Anothi: «Neze! (Sizo landela) inkolo kaAbraham owayeqotho, futhi wayengesiye umkhonzi wezithixo»<sup>[2]</sup>.

**136.** Anothi: Siyakholwa KuAllah, nakulokho esikwembu lelwe, nalokho okwembulwa kuAbraham, noIshamayeli, noIsa ka, noJakobe, nasezizweni, nalkho okwembulwa kuMose, noJesu nakwabanye abaProfethi kuvela eNkosini yabo: asibandlululi noyedwa phakathi kwabo, futhi

وَقَالُوا كُوْنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُ وَاقْلُ  
بْلَ مَلَكَ إِبْرَاهِيمَ حَيْفَاظًا عَمَّا كَانَ مَنْ  
الْمُشَرِّكُينَ<sup>(٤)</sup>

قُولُوا أَمَّا كَلَابِلُ اللَّهِ وَمَا تُرِلُ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزَلَ  
إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَلِاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا  
أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَرَقُ بَيْنَ  
أَحَدٍ مِنْهُمْ وَعَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ<sup>(٥)</sup>

[1] Aekho oyothwala isono somunye, futhi engekho oyojeziswa ngalokho angakwenzanga yena.

[2] UAbraham wakhethwa nguAllah njengoba sifundile kuvesi 130. Kuvesi 131 uthi: «Ngizinikele eNkosini edale amazwe onke jikelele» ngeSiArab sithi uyiMuslim.

sizinikele kuYena (uAllah) kuphe-la (singama Muslim)».

**137.** Uma bekholwa njengoba nina nikholwa, ngempela baholwe ngokweqiniso, kepha uma beful-athela (lombiko), yibona abadala uqhekeko, futhi uAllah uzoniseka uma nibhekene nabo: ngokuba nguYena Ozwa konke, Owazi konke!

**138.** Umbaphathiso (umbala)<sup>[1]</sup> okaAllah, kambe ubani ongabha-phathisa kangcono kunoAllah na? NguYena futhi esimkhonzayo.

**139.** Yithi (kumaJuda namaKrestu): «Ningaphikisana yini nathi<sup>[2]</sup> ngoAllah, uma kunguYena oyiNkosi yethu neNkosi yenu, kanti imisebenzi yethu iqondene nathi, kanjalo nemisebenzi yenu iqondene nani, futhi sizinikele ngobuqotho kuYena na?».

**140.** Noma kambe nithi uAbraham noIshmayeli, noIsaka, noJakobe, nezizwe kwakungamaJuda

فَإِنْ أَمْتُوا بِمِثْلِ مَا أَمْتَهُمْ بِهِ فَقَدْ  
أَهْتَدَوْا وَلَنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقٍ  
فَسَيِّئُكُفِيْهُمُ اللَّهُ وَهُوَ الشَّيْءُ الْعَلِيُّمُ<sup>⑩</sup>

صُبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ  
صُبْغَةُ وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ<sup>⑪</sup>

فَلَمَّا أَتَاهُمْ جُنُونًا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ  
وَلَكُمْ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ  
مُغْلَظُونَ<sup>⑫</sup>

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ  
وَلَا سَاحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا

[1] KumaArab angamaKrestu kwakuthi uma ebhaphathiza afake udayi echibini lamanzi azobhaphathiza ngawo. Ngemuva kombhaphathizo kwakuthiwa usuthole «umbala» omusha. UmProfethi wafika nombaphathizo kaMoya oyiNgewe nomlilo. Funda Mathe. 3:11.

[2] AmaJuda ayevamise ukuklolodela amaMuslim ethi: I-Klibla okuwukubhekisa amabombo ezweni elingcwele uma ukhuleka, bethi ingeyab; futhi ingeyokuqala. AbaProfethi bonke abakwaIsrayeli; ukuba uMuhammad ubengumProfethi ngabe ephuma esizweni sethu. UAllah Waye-sembula lelivesi.

noma kwa kungama Krestu na? Yithi: «Inina enazi kangcono noma uAllah na? Futhi ukhona yini omubi kakhulu kunalowo ofihle ubufakazi anabo abuthole kuAllah na? Nokho akusi kona ukuthi uAllah Aka kunakile enikwenzayo».

**141.** Manje labo ngabantu asebadlula kuleli; bayovuna izithelo abazisebenzela, kanye nani niyovuna kwenikusebenzile, futhi anizubuzwa ngezenzo zabo»<sup>[1]</sup>.

### ISIGABA17.

**142.** Iziwula phakathi kwabantu zizothi: «Yingani befulathele iklibla<sup>[2]</sup> (yase Jerusalem) okuyiyona ndawo abayijwayele na? Yithi: «Ingeka Allah impumalanga nentshonalanga: Uholela lowo Amthandileyo endleleni eqondileyo».

**143.** Yingakho Sinenze naysizwe (Ummat)<sup>[3]</sup> esiphakathi nendawo, ukuze nibe ngofakazi kubantu, futhi nesi Thunywa sibe ngufakazi kinina. Futhi Sini-

هُوَدًا أَوْ نَصْرَانِي ۖ قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ أَمَّا  
الَّذِي وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَثْرَ شَهَادَةِ  
عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ  
عَمَّا تَعْمَلُونَ<sup>⑤</sup>

تَلَكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُنْ  
مَا كَسَبَتُمْ وَلَا سُعُونَ عَمَّا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ<sup>٦</sup>

سَيَقُولُ الْسُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا  
وَلَهُمْ عَنْ قِيلَابِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ  
تَلَهُ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ يُهِدِي مِنْ يَشَاءُ  
إِلَى صِرَاطٍ مُسْقَيْهِ<sup>٧</sup>

وَنَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَّلْنَاكُمْ نُوَشَّهَةً  
عَلَى النَّاسِ وَكَيْوَنُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ شَهِيدًا وَمَا  
جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمُ

[1] Umbhaphathizo kuthiwa owokususa isono sokuqala sika Adam noEva, lapha uAllah Uyasihlambulula kulokho.

[2] I-Klibla yibombo lapho siphenduka sibhekise ngakhona uma sikhuleka. Funda 2 IziKronike 6:29 naku 32, yingakho umProfethi uMuhammad (ukuthula kube kuye) engazange ayibandlulule, UAllah wayeseletha umyalo wokuyifulathela ngemva kwezingcono zamaJuda.

[3] I-Ummat yisizwe esibunjwe ngezinhlanga ezahlukene.

khethela iklibla (eMakkah)<sup>[1]</sup> ebe-niyijwayele, ukuze Sazi lowo olandela isiThunywa nalowo ophambana naso: ngokuba ngempela (isivivinyo) besinzima nga-phandle kulabo abaholwa nguAllah. Nokho uAllah Akasoze Aluthatha njengeze ukholo lwenu, ngoba uAllah Unozwelo Nesihawu maqondana nesintu.

**144.** (O, Muhammad) Sibone uphendula ubuso bakho ububhe-kise ezulwini (ukuze uholwe): Ngakho-ke Sizokwenza ukuba ubhekise eklibla ezokugculisa. Manje-ke phendulela ubuso bakho eMasjid eNgcwele (eMakkah), futhi noma ngabe nikuphi, nibo-phendulela ubuso benu kuyo (uma nikhuleka). Futhi labo abathola iNcwadi (kuqala) bayazi ukuthi leliyiqiniso elivela eNkosini yabo: ngempela akusikona ukuthi uAl-lah Akakunakile abakwenzayo.

**145.** Noma ngabe usulethe izinhlobonhlobo zezibonakaliso kulabo abathola iNcwadi (kuqala), bangeze babhekissa kuleklibla ya-kho. Kanjalo nawe ungabhekisi ngaseklibla yabo, kanti nabanye phakathi kwabo ababhekisi nga-

مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ يُقْلِبُ عَلَىْ عَقْلِهِ  
وَإِنْ كَانَتْ لِكَيْدَرَةً لَا لَعْنَ الَّذِينَ هَدَى  
اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيقَ إِنَّمَا كَفَرُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِالْحَقِّ لَرَءُوفٌ تَّحْيِي  
﴿٦﴾

قُدْرَتِي تَقْلِبُ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَّكَ  
قِبْلَةَ تَرْضِهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ السُّجُودِ  
الْحَرَامَ وَحِينَ مَا نَتَوْهُ وَلَوْا وَجْهَكَ سَطْرَةً  
وَلَئِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَعْنِي  
مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ  
﴿٧﴾

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ الْيَةِ  
تَأْتِيُّهُمْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَائِبٍ قِبْلَتَهُمْ  
وَمَا بَعْضُهُمْ شَتَّاهٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَبَعُتَ  
أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ

[1] Lendlu yomkhuleko eseMakkah yakhiwa nguAbraham noIshmayeli, kanti iThemperi laseJerusalem lakhiwa uSolomoni umzukulu kaAbraham (ukuthula kube kubona).

seklibla yabanye<sup>[1]</sup>. Uma wena futhi ungase ulandele izifiso zabo ngemuva kokuthola ulwazi, ngempela ungaba omunye wabedukileyo.

**146.** Labo eSabanika iNcwadi bayawazi (lombiko)<sup>[2]</sup> njengoba bekwazi ukubona amadodana abo; kepha, bheka, abanye kubona bafihle iqiniso lelo abalaziyo.

**147.** Iqiniso livela eNkosini yakho! Ngakho-ke ungabi ongabazayo (nakancane).

### ISIGABA18.

**148.** Ngoba yilowo nalowo unenjongo yalapho ephendukela khona, ngakho-ke ncintisanani ngokuhle<sup>[3]</sup>. Noma ngabe nikuphi uAllah Uyonihlanganisa ndawonye, ngoba, ngempela uAllah Unamandla phezu kwezinto zonke.

**149.** Kanjalo, noma ngabe uqhamuka ngakuphi phendulela ubuso bakho (uthandaze) ubhekise ngaseMasjid eNgcwele (eMakkah)

أَلَّذِينَ اتَّبَعُهُ الْكُفَّارُ فَيُؤْفَوْنَ كَمَا يَعْرِفُونَ  
أَيْنَذَهُمْ وَلَئِنْ قَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ  
الْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تُكُونُنَّ مِنَ الْمُمْتَنَّينَ ﴿١٧﴾

وَلَكُنْ ۚ وَجْهَهُ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَإِنْ يَقُولُوا إِلَىٰغَيْرِهِ  
أَيْنَ مَا نَأَكُونُو ۖ وَإِنْ يَأْتِ بِكُلِّ اللَّهُ جَمِيعَهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨﴾

وَمِنْ حَيْثُ حَرَجْتَ قَوْلَىٰ وَجْهَكَ سَطْرُ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ

[1] AmaJuda abhekisa ejersalem uma ethandaza, kanti amaKrestu abhekisa noma kuphi.

[2] UAbdullah bin Salaam ngowokuqala esizweni samaJuda ukwemukela i-Islam kumProfethi (ukuthula kube kuye), mhlazane efika okukuqala emzini waseMadina. Kwamcacela ukuthi nguyena lomProfethi okwakubikezelwe ngaye ezincwadini zabo.

[3] Inkolo ihambisana kakhulu nezenzo ezinhle ezifakazela ukuholwa.

- ngokuba, bheka, yiqiniso leli elvela eNkosini yakho; futhi akusikona ukuthi uAllah Akakanile enikwenzayo.

**150.** Uma njalo uliqhamukisa noma ngakuphi, phendulela ubuso bakho eMasjid eNgcwele; futhi noma ngabe nikuphi niphendulele ubuso benu kuyo (uma nikhuleka), ukuze abantu bangalokhu bephikisana nani, ngaphandle kwalabo abanochuku. Ngakho-ke ningabesabi, kepha nesabe Mina! ukuze Ngiphelelise umusa waMi kinina, nokuthi futhi nize nithole ukuholwa.

**151.** Njengoba Sathumela iSithunywa phakathi kwenu, esinibikela imiyalo Yethu, futhi sanihlanza, sanifundisa ngoMbhalo nobuhlakani, futhi sanifundisa ngisho lokho ebeningakwazi.

**152.** Ngakho-ke Ngikhumbuleni, naMi Ngizonikhumbula nani. Ningibonge, futhi ningadikili ukukholowa yiMi.

### ISIGABA19.

**153.** O, nina enikholiwo! Celeni usizo ngokubekezela nan-gomkhuleko: ngoba, bheka, uAllah Ukanye nalabo ababekelayo.

وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَهَمَّكَ سَطْرَ السَّجْدَةِ  
الْحَرَامَ وَحِيتُ مَا كُنْتُمْ فَوْلُوا وَجْهَكُمْ سَطْرَةً  
إِنَّمَا كُنْتُمْ لِلشَّاءِ عَلَيْكُمْ هُجْهَةٌ إِلَّا الَّذِينَ  
كَلَمَوْا مِنْهُمْ قَلَّا نَغْشُوْهُمْ وَأَخْشَوْنِيَّةً وَلَيْسَ  
بِعَيْقَنٍ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٧﴾

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِنَّ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتَنَزَّلُ عَلَيْكُمْ  
إِنَّمَا أُرْتَدِيكُمْ وَعِلْمُهُ لِلرَّبِّ وَالْحِكْمَةُ  
وَعِلْمُهُمْ أَنَّهُمْ لَوْلَدُنَا لَعَلَمُوكُمْ ﴿٨﴾

فَإِذْ كُرُونَى ذَكْرُهُمْ وَأَشْكَرُوا إِلَيْهِ لَا يَنْفَرُونَ ﴿٩﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِنُو بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ  
إِنَّ اللَّهَ مَمْضِيُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٠﴾

وَلَا تَقُولُوا لِلَّهِ مِنْ يَقِنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ  
بَلْ أَحْيَاهُ وَلَكِنَ لَا يَشْعُرُونَ

وَلَنَبْغُونَنَّمُ بَتِّيٌّ مِنَ الْغَوْفِ وَالْجُجُوعِ  
وَنَقْصٌ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  
وَبَتِّرِ الظَّبِيرَيْنَ

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا  
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُعُونَ

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ذَكْرِهِ وَرَحْمَةٌ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَدِّدُونَ

إِنَّ الصَّفَّا وَالمرْوَةَ مِنْ شَعَارِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ  
الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَوَّ  
بِهِمَا وَمَنْ تَطَعَّعَ خَيْرًا فِي أَقْرَانِ اللَّهِ  
شَاكِرًا عَلَيْهِ

**154.** Futhi ningasho kulabo ababulawe besendleleni kaAllah, (ukuthi): «Ngabafi». Lutho! Bayaphila noma nina ningakuboni lokho<sup>[1]</sup>.

**155.** Ngempela futhi Sizonivinyा ngezinto ezsabisayo, ngenndlala, nangokulahlekelwa yingcebo nemiphefumulo kanye nezithelo (zezithukunthuku zenu), nokho dluliselani izindaba ezimnandi kwababekezelayo.

**156.** Labo okuthi uma bevelewe amashwa bathi: «Ngempela singabakaAllah, futhi isiphetho ngempela ukubuyela kuYe».

**157.** Banjalo-ke okwehlela kubonai izibusiso nomusa ovela eNkosini yabo, futhi yibona abaholeleke endleleni elungileyo.

**158.** Bheka! (izintaba) iSwafa<sup>[2]</sup> neMarwah ziphakathi kwezinye zezimpawu zikaAllah, kulabo abenza iHajj kuLendlu ngesikhathi okuyiso onyakeni, noma ngezinye izikhathi zonyaka (uMrah), aku-

[1] Funda isahluko (surah) 3:169-171.

[2] Kulezintaba zombili kulapho uHagar (Hajar) unina kaIshmayeli ayegijima khona efuna amanzi ukuze aphuzise umntwana, uAllah Wa-phemba umthombo abathi yiZam-zam. Kulendawo yilapho uAbraham amisa khona umuzi wakhe kanye nendlu kaAllah. funda kuGenesise 21:17-21.

nacala uma bejikeleza (phakathi) kwazo (ngomthandazo), ngoba, uma kukhona ozenzela okuhle kuzisukela kuyena, (akunacala), qiniseka ukuthi uAllah unguMbuleli Owaziyo.

**159.** Ngempela labo abafihle ubufakazi kanye nezaluleko eSesazembula, ngemuva kokuba Sesazicacisela abantu ngemiBhalo: yilabo-ke abazokwenganyelwa yisqalekiso sikaAllah, kanye nesalabo abanamandla okuqalekisa.

**160.** Ngaphandle kwalabo abaphendukayo balungise, baveze obala (amaqiniso). Yibona-ke labo Engiphendukela kubona (ngentethelo), ngokuba Mina Ngiphenduka ngomusa.

**161.** Ngempela labo abaphika inkolo baze bafe beyiphika, phezukwabo kunesiqalekiso sikaAllah, nesezingelosi kanye nesabantu bonke.

**162.** Bayophila kuso njalo; (futhi) isijeziso sabo asizuxegiswa, kanti nelinye ithuba bengezulinikezwa.

**163.** Ngempela uNkulunkulu wenu nguNkulunkulu munye vo; akuna Nkulunkulu ngaphandle kwaKhe, Unomusa, Unesihawu.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبُيُّنَاتِ  
وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا يَتَّهِي لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ  
أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْعَوْنَوْنُ ﴿١٧﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا<sup>١٨</sup>  
فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ  
الرَّحِيمُ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوْلُوا وَهُمْ لَهُمْ<sup>١٩</sup>  
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالسَّلَّيْكَةُ  
وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَقْفَضُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ  
وَلَا هُمْ يُظْرَوْنَ ﴿٢١﴾

وَالْهُكْمُ إِلَهٌ وَّالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ  
الرَّحِيمُ

## ISIGABA20.

**164.** Ngempela ekudalweni kwamazulu nomhlaba, nasekugulweni kobusuku nemini, emikhumbini entanta olwandle nalokho okuyinzuso kubantu, kanye namanzi (emvula) uAllah Awehlisa esibhakabhakeni, nempo Ayiletha ngawo emhlabeni osufile, ezilwaneni ezinhlobonhlobo ezandiswe umhlaba wonke, ekuphendukeni kwemimoya, namafu eweuthobele, phakathi kewebhakabhaka nomhlaba: kuyizimpawu (zobuKhosi bukaAllah) kulabo abaqondayo.

**165.** Noma kunjalo kunabantu abakhonza izithixo esikhundleni sikaAllah, bazithanda ngalo-lothando okufanele bathande ngalo uAllah: kepha labo abakholwayo baphuphuma uthando ngoAllah, Ukube lezozoni bezinamehlo okubona, (ngempela) beziyobona isijeziso, nokuthi amandla onke ngakaAllah, kanye nokuthi uAllah Unesijeziso esinzi-ma!

**166.** ( Kuyothi ngaloloSuku ) labo ababelandelwa sebezihlangula kubalandeli babo, bazobona isijeziso nobuhlobo babo buyophela nya!

**167.** Futhi nalabo ababenga-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَغُرَبَةً  
الْيَوْمُ وَالْهَارِدُ الْفَلَكُ الَّتِي تَجْزِي فِي الْبَعْدِ  
بِمَا يَنْتَعِمُ النَّاسُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ  
مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا  
وَبَئَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ  
الرِّيحِ وَالسَّحَابَ السَّعْدَرِينَ السَّمَاءَ  
وَالْأَرْضَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ ﴿٤﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكْخُذُ مِنْ دُورِنَ اللَّهِ  
أَنَّدَادَأَنْجِيَوْهُمْ كُلُّهُمْ كُلُّهُمْ أَمْوَالُهُمْ  
أَشَدُّ حِلْمَانَهُ وَلَوْرَى الَّذِينَ كَلَمُوا إِذْ  
بَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْفُؤَادَهُ لَهُمْ جَمِيعًا وَأَنَّ  
اللَّهُ شَدِيدُ الْعَدَابِ ﴿٥﴾

إِذْتَبَرَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا  
وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَنَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿٦﴾

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَأَنَّ لَنَا كُرَّةً

balandeli bayothi: «Uma besineli-nye ithuba bsiyozihlangula njen-galokho nabo sebezihlangulile kithina!» Kanjalo uAllah Uyoba-khombisa izenzo zabo, babelusizi, kodwa kungekho ndlela kubona yoku phuma emlilwemi.

### ISIGABA21.

**168.** O, sintu! Dlanini konke okusemthethweni (halal) nokuhlanzekile emhlabeni, futhi nin-galandeli ezinyathelweni zikasta-thane: ngoba, ngempela uyisitha senu esisobala.

**169.** Ngokuba uniyala kuphela ngokwenza okubi nokuyihlazo, nokuthi nikhulume ngoAllah lokho eningakwazi.

**170.** Kepha uma kuthiwa kubona: «Landelani lokho uAllah Akwembulile», Bathi: «Neze! Sizolandela (kuphela) emikhodweni yobaba bethu». Maye! Noma ngabe oyise babengenabo na-kancane ubuhlakani nokuholwa (kweqiniso) na?

**171.** Futhi-ke labo a bangakhola bafaniswa nalabo abame-mezisa okomhlambi wezimbuзи, ubhekise ezintweni ezingezwa lu-tho, ngaphandle (komsindo) wokumemeza kanye nezikhalo. Bayizithulu, izimungulu, bayi-

فَتَبَرَّأُ مِنْهُ كَمَا تَبَرَّأَ مِنَ الْكَلْمَنْ  
يُنُوهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ حَسَرَتْ عَلَيْهِمْ  
وَإِنَّهُمْ بِغَرْجِيْنِ مِنَ الظَّالِمِينَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّنَا مُتَابِقُ الْأَرْضِ حَلَّا  
طَلَبِيْاً وَلَا تَكُونُوا أَخْطُوبِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَمُّكُمْ عَدُوٌّ مُّمِيْنِ

إِنَّمَا يُمْرِكُمْ بِالشَّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ  
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَيْعُو مَا أُنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا  
بَلْ نَعْبُدُ مَا أَنْقَبَنَا عَلَيْهِ إِنَّا لَأَوْلَئِكَانَ  
إِنَّا وَهُنْ لَا يُعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ

وَمَثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمِثْلُ الَّذِينَ يَنْتَعِقُ بِهَا  
لَا يَسْمَعُ إِلَادُعَاهُمْ وَنَدَاهُ صَحْبُهُمْ  
عُنْيَ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

zimpumputhe ngalokho abanabo  
ubuhlakani.

**172.** O, nina enikholwayo!  
Dlanini konke okuhlanzekile eSina-bele kona, futhi nibonge kuAllah uma kunguYena kuperha enimkhonzayo.

**173.** Unenqabela (ukudla) ingcuba (isilwane esife singanqu-nyiwe), ububende, inyama yengulube nalokho okuthe uma kunqunywa kwathethwa amanye amagama kunelikaAllah. Kepha uma kukhona ophoqwe yisimo engeqanga (umthetho) ngenhoso, lowo akanacula, ngokuba, bheka uAllah Uyathethelela, Unomusa.

**174.** Ngempela labo abafihle izambulo zikaAllah eziseNcwadini, futhi bazuze okuthile ngalokho, labo-ke abafaki lutho ngaphandle komlilo eziswini zabo. Futhi uAllah Akazukhuluma nabo ngo-Suku lokuvuka (kwabafileyo), futhi Akazubahlambulula. Ngempela bamelwe yisijeziso esibuhlungu (kakhulu).

**175.** Yilabo-ke abakhethe ukuphambuka kunokuholwa (ngeqiniso), nesijeziso kunentethelelo. Nakho, bazimisele kangakanani ngokufinyelela emlilweni!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّ أُونَّ طَيِّبٍ  
مَارَأَتْ قَنْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ مَا كُنْتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٤٧﴾

إِنَّمَا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمُ  
الْحِنْدِيرِ وَمَا أَهْلَكَهُ لَغَيْرُ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغِثٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْزَامَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ لِّرَجُلٍ ﴿٤٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مَنِ  
الْكِتَابُ وَيَسْتَرُونَ بِهِ سَنَاقِيلًا أَوْ لِكَ  
مَا يَا كُلُّونَ فِي بُطُونِهِمْ لَا إِثَارَ وَلَا يُكَبِّلُهُمْ  
اللَّهُ يُوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُرْتَكِبُهُمْ وَلَا هُمْ عَنِ  
الْآيَاتِ ﴿٤٩﴾

أَوْ لِكَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا الْمُلْكَةَ بِالْهُدَىٰ  
وَالْعَدَابَ بِالْمُغْفِرَةِ فَمَنِ أَصْبَرَهُمْ عَلَىٰ  
الثَّالِثِ ﴿٥٠﴾

176. (Bazojeza) ngoba uAllah Umbule iNcwadi ngokweqiniso, kepha labo abafuna abangaphikisana nakho kuyo iNcwadi, baqembukele kude le!

### ISIGABA22.

177. Akusikona ukulunga ukuphendulela ubuso benu empumalanga noma entshonalanga, kepha ukulungu kuwukukholwa kuAllah nasoSukwini lokugcina, nasezingelosini, emiBhalweni, naseziThunywени; futhi nokunikela ngengcebo ngenxa yokuMthanda (uAllah), ezhlobeni, nezintandane, abampofu, nabasohambeni, nakwabacelayo, nokukuhulula izigqila, nokumela umthandazo, nokusisela abampofu (zakat), nokugcina izivumelwano kulabo ozenze nabo, nokubekezela ebuhlungwini nase-mashweni, nangezikhathi zosizi. Banjalo-ke abantu beqiniso, futhi yibona labo abaqotho.

178. O, nina enikholwayo! Nitlotshelwe umthetho wokuziphindiselela uma kunobulewe. Okhululekile ngokhululekile, uma kuyinceku ngenye inceku, uma kungowesifazane ngomunye wesi-fazane. Kepha uma kunesinxephelo esifunwa ngumfowabo wobulewe, makahlawulelw ngen-dlela ekahle. Lokho kuwukux-egiselwa kanye nomusa ovela

ذَلِكَ يَا أَنَّ اللَّهَ تَرَأَّلُ الْكِتَبَ بِالْعُيْنِ  
وَلَئِنِّي لَدُنْ اخْتَلَفْتُ فِي الْكِتَبِ لَفِي شَقَاقٍ  
بَعِيْدٌ ۝

لَيْسَ إِلَيْهِنَّ تُؤْلَوْا وَجُوهُهُمْ قَبْلِ  
الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ إِلَيْهِنَّ أَمْنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلِكَةِ وَالْكِتَبِ  
وَالْقَمَدِينَ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَى حُسْنِهِ دَوْيٌ  
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسْكِنِينَ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  
وَأَقْأَمَ الْصَّلَاةَ وَأَنَّ الزَّكَاةَ وَالْمَوْعِدَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا أَعْهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي  
الْبَاسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَارِزَ  
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُتَّقُونَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَبَعَّدُ عَنِّكُمُ الْفُضَالُ  
فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ يَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ يَالْعَبْدُ  
وَالْأُنْثَى يَالْأُنْثَى مِنْهُمْ عُفْنَ لَهُ مِنْ أَخْيَهِ  
شَيْءٌ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمَعْرُوفُ وَأَذْلَالُ الْأَيُّوبِ يَأْسَانُ  
ذَلِكَ تَعْنِيفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ  
أَعْتَدَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

eNkosini yenu. Ngakho-ke lowo ophambukayo ngemuva kwalokhu uzothola isijeziso esibuhlungu<sup>[1]</sup>.

**179.** Ngokuba umthetho woku-phindisela (uzohlenga) impilo yenu, o, nina bantu abaqondayo, ukuze nigweme ububi<sup>[2]</sup>.

**180.** Nilotshelwe ukuthi, uma omunye wenu eficwa ukufa, eshiya ifa, (ashicilele isiqiniseko) mayelana nokwabiwa kwalo, kubazali nezihlobo, ngendlela ekahle, Lona umgomu kulabo abesaba uAllah.

**181.** Futhi lowo ozoguqula lokhu (ekubeni) esezwile, isono sizoba kuphela kulabo abaguqu- layo, ngempela uAllah Uyezwa, Uyazi.

**182.** Kepha uma omunye esaba isiphosiso noma isono ngasohlangothini lalowo owenza izin-qumo encwadini yefa, bese yena elamula ngesu loxolo phakathi kwabo, akunasono kuyena, ngempela uAllah Uyathethelela, Unomusa.

[1] AmaArab ayevamise ukuba nezimpi, kuthi uma kufa umuntu oyedwa kuphindiselwe ngokubulawa kwabaningi. UAllah unxusa ukusindisa imiphefumulo yeningi labantu: onokubulawa umbulali, kodwa okungcono kakhulu, ukufuna isinxephelo. Umthetho ophelele ngololudaba unaphansi kwesihloko esithi Klisas (Qisas). Akukhulunya ngomuntu ofengengozi kukhulunya ngobulewe ngenhlos.

[2] Uma umuntu azikahle ukuthi uma ebulala naye uzobulawa ngokomthetho, lokho kunciphisa izinga lokubulala ngenhlos.

وَلَكُمْ فِي الْفَصَادِ حِيمَةٌ يَا أُولَئِكُمْ الْأَيَّابِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>[3]</sup>

لُكْبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكْ  
خَيْرًا لِّوَصِيَّةِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ<sup>[4]</sup>

فَمَنْ بَذَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِنْتَهُ عَلَى  
الَّذِينَ يُبَيِّنُ لَوْنَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ<sup>[5]</sup>

فَمَنْ حَافَ مِنْ هُوَ مِنْ جَنَّةً أَوْ أَثْلَاثًا  
فَأَصْلَحَهُ بِيَمْهُومٍ فَلَا إِنْ شَرَعَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>[6]</sup>

## ISIGABA23.

183. O, nina enikholwayo! Kunqunywe ukuthi nizile (ukudla) njengalokho kwanqunyelwa labo abasemandulo, ukuze Nisabe (uAllah).

184. (Zilani) ngezinsuku ezinqunyiwe, kepha kulowo ogulayo phakathi kwenu noma esohambe-ni, isibalo salezo zinsuku (si-khokhwe) ezinsukwini ezilandelayo. Kulabo okunzima kubona, uma benamandla bano kuzikhulula ng-okondla umuntu odingayo. Kepha lowo owenza okuhle ngokwakhe, kuzoba ngco no kuyena; nokuthi kuzobangcono kinina ukuthi nizile uma ngabe ninolwazi.

185. Inyanga kaRamadhan<sup>[1]</sup>, iyona okwembulwa ngayo iKur'an<sup>[2]</sup>, ukuhola isintu, kanye nezimpawu ezicacile zezaluleko nokwahlulela (kokuhle nokubi). Ngakho-ke noma ubani okhona phakathi kwenu azile kuyoyonke

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الظِّيَامُ  
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ﴿٧﴾

أَيَّا مَا مَأْمَنْتُمْ دُرْدِتْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَرِيبًا  
أَوْ عَلَى سَفِيرٍ فَعَدَهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ وَعَلَى  
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَاعَمُ مُسْكِنٍ فَمَنْ  
تَطَوَّعَ خَيْرًا هُوَ حَيْلَهُ وَأَنْ تَصُومُوا  
خَيْرٌ لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿٨﴾

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
هُدًى لِّلْأَنْسَابِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى  
وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ  
فَلِيُصْحِّهِ وَمَنْ كَانَ مَرْيِضًا أَوْ عَلَى سَفِيرٍ  
فَعَدَهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُلِّ الْيُرْ

[1] Inyanga kaRamadhan eyesishiyagalolunye ezinyangeni zonyaka ekhalendeni lamaMuslim.

[2] Ubusuku bomhlaka 27 kuRamadhan baziwa ngokuthi «ubusuku baMandla» (Lailat-ul-Qadr). Kwembulwa ngabo amavesi amahlanu esahluko 96 seKur'an, okuyisambulo esafika kuqala kumProfethi uMuhammad (ukuthula kube kuye). Wayezilile esemgedeni entaben iHirah eseMakkah.

وَلَا يُرِيدُ كُلُّ الْعُسْرَ وَلِتُكْلِمُ الْعَدَاءَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذِهِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ ﴿٤﴾

lenyanga; kepha uma omunye wenu egula, noma esohambeni, akazile isibalo esifanayo ezinsuk-wini ezilandelayo. UAllah Ufuna ukunixegisela, Akathandi Uknithwalisa ubunzima; ukuze nikwazi ukumela lezosonsuku ezinqunyiwe, futhi niMdumise uAllah ngokuba Enihola, futhi nibe ababongayo (kuYe).

**186.** Futhi uma izinceku zaMi zibuza ngaMi-ngempela Ngiseduze (kwazo). Ngiphendula isicelo sal-owo ocelayo, uma ecela kiMi, ngakho-ke mabezwe izwi laMi, futhi bakhole yiMi, ukuze bahambe ngendalela elungileyo.

**187.** Okuvumelekile kinina, ngnobusuku (enyangeni) yokuzila, ukuhlangana namakhosikazi<sup>[1]</sup> enu: ayizingubo zenu, nani niyingzingubo zaho. UAllah Uyazi ukuthi benizikhohlisa ngasese, ngakho-ke Waphendukela kinina Wanikhulula. Manje - ke seningahlangana nawo nifune lokho uAllah Animisele kona ngo-komthetho<sup>[2]</sup>, futhi nidle niphuze kuze kudede ubumnyama kuqale ukuntwela kokusa ngesikhathi

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَالُوا إِنَّا تَرَوْنَا  
إِجْيَابًا دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَ عَنْ فَلِيَسْتَجِيبُ عَالِيًّا  
وَلَنِيُؤْمِنُوا بِنَعْلَمْهُ يُرِيدُونَ ﴿٥﴾

أُحِلَّ لَكُمْ لِيَلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى  
نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
لِيَاسٌ هُنَّ عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ لَكُمْ  
خَتَّالُونَ أَنْفُسُكُمْ تَقَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا  
عَنْكُمْ فَإِلَئِنْ بَاشَرُوهُنَّ وَأَتَغْوَى  
مَا لَكُبَّ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُّوْا شَرُبُوا حَلْيَ  
يَكْتَبُنَ لَكُمْ أَنْجَطُ الْأَيْضُ مِنَ الْخَيْطِ  
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَبُو الصِّيَامَ  
إِلَى الظَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ

[1] Ukuhlangana ocansini kuvumeleke kubantu abashadile kuphela.

[2] UAllah Waxegisa lomthetho ngemuva kokuzibika kwabanye mayela-na nokuzila amakhosikazi abo inyanga yonke.

somkhuleko weFajr<sup>[1]</sup>. Niqale lapho ukuzila lize liyoshona (ilan-ga), kepha ningahlangani nam-akhosikazi enu (kulezonsuku) niggobele eMasjid nijule ngom-khuleko<sup>[2]</sup>. Lena yimigomo emiswe nguAllah, ningasondelani nawo. UAllah Uyicacise kanjalo imibiko yaKhe kubantu, ukuze bagweme ububi.

**188.** Ningasaphazi phakathi kwenu imphala yenu ngeze, futhi ningafumbathisi abehluleli, ngenh-loso yokushwaqa ngokungafanele ifa labanye abantu ngolwazi<sup>[3]</sup>.

#### ISIGABA24.

**189.** Bakubuza mayelana no-kuthwasa kwezinyanga ezintsha, yithi: «Leyo yimikhawulo yezi-khathi zonyaka kubantu, neze-Hajj. Akusikona ukulunga ukungena imizi ngemuva<sup>[4]</sup>, kodwa ukulunga ukwesaba uAllah. Nga-kho-ke ngenani emizini ngemi-

عَلِقُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تُلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
فَلَا تَقْرُبُوهُمْ كَذَلِكَ يُعَذِّبُنَ اللَّهُ  
إِيَّتُهُ لِلثَّالِثِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ يَا بَلَاطِ  
وَنَذِلُوا إِلَيْهَا إِلَى الْحُكَمَاءِ لِتَأْكُلُوا  
قُرْنَاقًا مِنْ أَمْوَالِ الْمَالِيَّاتِ يَا لِلشَّيْءِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

يَسْلُوكُكُمْ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ  
مَوَاقِيْعُكُمْ لِلثَّالِثِ وَالْعَيّْجِ وَلَيْسَ  
الْبَرُّ يَأْتُكُمْ تَأْتُوا بِبُيُوتِكُمْ مِنْ  
ظَاهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبَرَّ مِنْ أَنْتُمْ وَأَنْتُمْ  
بِبُيُوتِكُمْ مِنْ أَبُوابِهَا وَأَنْتُمْ اللَّهُ

[1] I-Fajr yintathakusa. Ukuzila kuqala ngaphambi kwembizo yomkhuleko wentathakusa.

[2] Uma umuntu egogobele endlini yomkhuleko, uhlala izinsuku eziyishumi ngaphambi kokuphela kwenyanga kaRamadhan; ejule ngom-khuleko efunda iKur'an eyiNgcwele ngezikhathi zonke. Lapho usuke ezhilukanisile nezinto zomhlaba: lesisenzo kuthiwa yi-Itikaf.

[3] Ukuzila kufundisa umuntu ukuthi akwazi ukuzithiba, sizihloniphe thina kanye nabanye, futhi siqede nomona ezinhliziyeni zethu.

[4] Ngenyanga yeHajj isizwe samaArab sasinenkolelo yokukhombisa ukulunga ngokungena imizi yawo ngemuva.

nyango efanele, futhi nesabe uAllah ukuze niphumelele».

**190.** Yilwani endleleni kaAllah, kanye nalabo abanilwisayo, kepha ningeqi izinqumo, ngempela uAllah Akabathandi abephuli bom-thetho.

**191.** Futhi nibabhuqe lapho nibathola khona, nibakhiphe lapho banikhipha khona, ngokuba incidezelo ingaphezu kokubula-la<sup>[1]</sup>. Nize ningabalwisi eMasjid eNgcwele (eMakkah), ngaphandle uma benilwisela khona lapho; kepha uma benilwisa nibabhuqe. Unjalo umvuzo walabo abansakholwayo.

**192.** Kepha uma bepheza, uAllah Uyathethelela, Unomusa kakhulu.

**193.** Ngakho-ke nilwe nabo kuze kuphele incidezelo, kusale umthetho nenkolo kaAllah. Kepha uma bepheza bungabikho ubutha, ngaphandle makuyikulabo abonayo.

**194.** Inyanga eNgcwele, nge-nyanga eNgcwele akuvumelekile ngayo konke, ngisho ukuziphindi-

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤﴾

وَقَاتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُنْهَا  
يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا يَنْتَدِرُونَ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ ﴿٥﴾

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفْقِطُوهُمْ وَآخِرُهُمْ  
مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفُتَنَةُ أَسْدَدَ مِنْ  
الْقَتْلِ وَلَا تُفْلِتُوهُمْ عِنْدَ السَّجْدَةِ  
الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُفْلِتُوهُمْ فَإِنَّمَا قَاتَلُوكُمْ  
مُّتَلُّكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ  
جَرَأَءُ الْكُفَّارِينَ ﴿٦﴾

فَإِنْ اتَّهَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

وَقْتُلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا يَكُونَ فِتْنَةٌ  
وَلَا يَكُونُ الدِّينُ بِلَهٗ فَإِنْ اتَّهَمُوا  
فَلَا عُذْنَانَ إِلَّا عَنِ الظَّلَمِيْنَ ﴿٨﴾

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ

[1] AmaMuslim ayesekudingisweni eMadina naseAbysiniya (Ethopiya) ayebuyela eMakkah ngesikhathi seHajj. Lapha yiziyalo zokuziphatha ukubhekana nabacindezeli kusukela kuvesi 190-195.

selela<sup>[1]</sup>. Ngakho-ke uma kukhona oweqa umthetho onivimbele, nani wephuleni ngokufanayo nibhekane naye, kepha nesabe uAllah, futhi nazi ukuthi uAllah Ukanye nalabo abemesabayo.

**195.** Nikelani ngeninakho endeleni kaAllah, futhi (niqaphele) ningazinikeli ekubhujisweni ngenxa yemisebenzi yezandla zenu: kepha nenze okuhle: ngempela uAllah Uthanda labo abenza okuhle.

**196.** Futhi nifeze iHajj kanye neUmrah eqondene noAllah; kepha uma nivimbezeleka (ukuyiqedela), nithumele iminikelo yemihlabelo noma iyiphi eningayithola. Kepha ningaphuci amakhanda enu umnikelo uze ufinyelele endaweni okuhlatselwa kuyo. Uma kukhona phakathi kwenu ogulayo, noma enezilonda ekhanda (ezimbangela ukuthi ali-phuce), ahlawule ngokuzila, noma ngokondla umuntu ompofu, noma anikele ngomhlabelo. Uma futhi

قصاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَ لِي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا  
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَ لَكُمْ وَأَتَقُوا  
اللَّهُ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُنْفِقُوا  
يَأْتِيَنَّكُمْ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ وَأَحْسِنُوا إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥﴾

وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُرْمَةَ بِهِ فَإِنْ  
أَخْرَجُوكُمْ فَمَا أَسْتَيْسِرُ مِنَ الْهَدَىٰ وَلَا  
تُحِلُّوْرُ وَرُسْكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدَىٰ عِلْمَهُ  
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُّرِيًّا فَأُولَئِكَ أَذْيَ مِنْ  
رَأْسِهِ فَقَدْ يَهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ  
أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَوْنَتُمْ فَمَنْ تَمَّعَ بِالْعُرْمَةِ  
إِلَى الْحَجَّ فَمَا أَسْتَيْسِرُ مِنَ الْهَدَىٰ فَمَنْ  
لَمْ يَجِدْ قَصِيمًا ثَلَاثَةَ آيَاتٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةً  
إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَهُ ذَلِكَ لِمَنْ  
لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرٍ السَّجِيدُ الْحَرَامُ

[1] Noma amaArab ayengasamkhonzi uAllah, kepha ayezithoba engalwi ezinyangeni eziNgewe lezi: Zil-Qadah, Zil-Jajj, Muharram neRajab.

I Hajj yona umcimbi owenziwa ngabantu bezindawo nobuzwe obahlukene, ngomoya woxolo badumisa uMdali bevakashele izwe eliNgewe laseMakkah.

Umcimbi weHajj wenziwa ngenyanga yawo, i-Umrah yona wuvakasho olucishe lufane nolweHajj; alunayo imininingwane efana ncamashi neyeHajj, futhi yenzowi noma yingasiphi isikhathi sonyaka.

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

nisesimeni esikahle, kulowo ofisa ukuqhubeka neUmrah kanye ne-Hajj, kumele anikele ngalokho okulingene namandla akhe; kepha uma ehluleka, kumele azile izinsuku ezintathu ngesikhathi seHajj, kanye nezinsuku eziyisikhombisa ekubuyeni kwakhe: kube yizinsuku eziyishumi sezizonke. Lokhu kubhekiswe kulowo umuzi wakhe okude neMasjid eNgcwele. Nesabe uAllah, futhi nazi ukuthi uAllah Ujezisa kanzima.

### ISIGABA25.

**197.** IHajj ingezinyanga ezaziwa kahle. Kulowo osezimisele ngeHajj kulezo (zinyanga) kungabikho ukuhlambalaza lapho, nokwenza okubi, nengxabano ngesikhathi seHajj. Futhi noma yikuphi okuhle enikwenzayo uAllah Uyakwazi. Ngakho-ke niphathe umphako wendlela, kepha umphako ongcono kakhulu ukugwema ububi. Ngempela nesabe Mina, o, nina enihlakaniphileyo!

**198.** Akusilona icala uma nizi-funela izipho ezivela eNkosini yenu (ngesikhathi seHajj)<sup>[1]</sup>. Futhi uma senehla entaben iArafat

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٌ فَنِئَ فَرَضَ فِيهِنَّ  
الْحَجَّ فَلَارْفَأَتْ وَلَاضْوَى وَلَهِدَىٰ فِي الْحَجَّ  
وَمَا نَقَعُلُو إِمْ حَيْدِرْ تَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوْدُوا  
فَإِنَّ حَيْدِرَ الزَّادَ التَّقْوَىٰ وَالْمُقْوَنِ  
يَأْوِي الْأَلْبَابِ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَجْتَعُوا  
فَضْلًا إِنْ رَبِّكُمْ، فَإِذَا أَفَضَّلُمُمْ مِنْ  
عَرْقَتْ قَادْكُرُو اللَّهُ عِثْدَ

[1] Ngemuva komcimbi weHajj ungazingela kepha hhayi ngesikhathi somcimbi akuvumelekile ukubulala izilwane noma ukukha nokuphula izinto ezimilile.

nihaye indumiso KaAllah, ngasendaweni yesikhumbuzo esiNgcwele, nihaye futhi indumiso yaKhe njengoba Eseniyalile, noma esi-khathini esiphambili ngempela beningabadukileyo.

**199.** Base nidlulela phambilis ngokushesha lapho iningi labantu liza ngokushesha, futhi nicele intethelelo kuAllah. Ngempela uAllah Uyathethelala, Unomusa.

**200.** Uma futhi seniwufezile umsebenzi enibumiselwe wokuzinikela, nihube izibongo zika-Allah njengalokho nanyie nihaye izibongo zoyihlo<sup>[1]</sup>, noma zithi ukwedlulela ngogqozi! Ngokuba kunabantu abathi: «O, Nkosi yethu! Siphe (izipho) kulomhlaba», kepha abazukuba nalutho kweLizayo.

**201.** Kunabantu futhi abathi: «Nkosi yethu! Siphe okuhle kulomhlaba, nokuhle kweLizayo, futhi Usihlenge ekujezisweni ngomlilo»<sup>[2]</sup>.

**202.** Labo-ke abamelwe (okuhle)

[1] AmaArab ayenomkhuba wokuthetha izibongo zoyise. UsoMandla uAllah Uyala ukuthi uYena kuphela okumele sihaye izibongo zaKhe.

[2] Njengoba sicela okuhle emhlabeni futhi sikusebenzela, nalokho kwaszweni eLizayo siyakucela futhi kumele sikusebenzele. Ufakazi uvesi 202.

الشَّعْرُ الْحَرَامُ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا  
هَذِهِ كُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ قِنْ قَبْلِهِ  
لَيْلَنَ الصَّالِيْنَ ⑩

ثُمَّ أَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ  
الثَّاَسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُوٌ عَنِ الْجِنِّ ⑪

فَإِذَا قَصَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِيرَ كُمْ أَبَا كُمْ أَوْ  
أَشَدَّ ذِكْرًا فِيْنَ الثَّاَسِ مَنْ يَقُولُ  
رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا مَا مَلَأَ فِي  
الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ ⑫

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا تَنَافَى  
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً  
وَقَاتَعَنَا عَذَابَ النَّارِ ⑬

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مَمْتَازٌ كَسَبُوا

abakusebenzele. Futhi uAllah Uy-ashesha ukwahlulela.

**203.** (Ngempela) nidumise uAllah kulezo zinsuku ezinqunyiwe, kepha kulowo ojahe ukuhamba ngemuva kwezinsuku ezimbili, akuzuba nacala kuyena, futhi ozosala akuzuba nacala kuyena, uma egwema ububi. Ngakho-ke nesabe uAllah, futhi nazi ukuthi niyoqoqelwa kuYe nonke.

**204.** Manje phakathi kwabantu kunegagu okuthi uma likhuluma ngempilo yakulomhlaba unokugculiseka ngayo, futhi lithi uAllah ungufakazi ngalokho okusenhliziyweni yalo, kanti liyisitha esilukhuni kabi.

**205.** Kepha uma selifulathela injongo yalo kuwukwandisa uku-khohlakala emhlabeni, nokubhubhisa isivuno kanye nemfuyo: futhi (ngempela) uAllah Akayithandi ukumosma.

**206.** Uma futhi kuthiwa kuyen: «Yesaba uAllah». Uku-ziqhayisa kwakhe kumholela esonweni: ngakho-ke uyozuza isihogo-indawo ngempela yokugcina yobubi.

**207.** Futhi phakathi kwabantu kunalowo onikela ngempilo yakhe

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥﴾

وَادْكُرْ وَاللَّهَ فِي آيَاتِهِ مَعْدُودٌ  
قُنْ تَعْجَلْ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْرَ  
عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرْ فَلَا إِثْرَ  
عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهُ  
وَاعْلَمُوا أَكْلُمَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٦﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَجِّلُكَ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَشَهْدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ  
أَلَدُ الْخَصَامِ ﴿٧﴾

وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيمَا  
وَيَهْلِكُ الْحَرَثَ وَالثَّلْثَلَ وَاللَّهُ  
لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ ﴿٨﴾

وَإِذَا أُقِيلَ لَهُ أَنْقَالَهُ أَخْدَثَهُ  
الْعَرْزَ بِالْأَنْوَافِ حَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ  
الْمَهَادُ ﴿٩﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِقُ نَفْسَهُ

ukuze azuze injabulo kuAllah: futhi uAllah Unozwelo ezincekwi-ni zaKhe.

**208.** O, nina enikholwayo! Ngenani kubuIslam (ukuthobela uAllah) ngokuphelele, futhi nингаландели ezinyathelweni zikasathane, ngoba, ngempela, uyisitha senu esisobala.

**209.** Kepha uma nihlehla nge-muva kokufika kombiko ocacile kinina, nazi-ke ukuthi uAllah Unamandla, Unobuhlakani.

**210.** Bazolinda yini kuze kufike uAllah ngesithunzi samafu kubo-na, Ekanye nezingelosi, futhi nodaba lwabo selunqunyiwe na? Izindaba kanye nezinqumo zonke ziyobuyela kuAllah<sup>[1]</sup>.

### ISIGABA26.

**211.** Buza kubantwana bak-waIsrayeli ukuthi zingaki izibona-kaliso ezicacile eSabathumela zona! Lowo futhi oguqla okunye ngemuva kokufika komusa ka-Allah kuyena, ngempela uAllah Ujezisa kanzima.

[1] Kulowo osewuzwile umbiko kaAllah akafanele ukubeka izaba mayelana nokungahambisani namaqiniso, hleze aficwe ukufa; angabe esathola ithuba lokuphenduka.

ابْتَغِ عَلَيْهَا مَرْضَاتَ اللَّهِ وَاللهُ  
رَأَءُوفٌ بِالْعِبادَاتِ ﴿٧﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي  
السَّلَامِ كُلَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَخْطُوطَ  
الشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٨﴾

فَإِنْ زَلَّتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَّكُمْ  
الْمَيْتَنُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ ﴿٩﴾

هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ  
فِي ظُلْلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلِئَةُ  
وَقُضَى الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
الْأُمُورُ ﴿١٠﴾

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمْ أَتَيْنَاهُمْ مِّنْ  
إِيَّاهُ بَيْتَنَاهُ وَمَنْ يُكَبِّدُ نِعْمَةَ اللَّهِ  
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

رَبِّنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَسَيَّرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا  
فَوَهْمُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يُرْزِقُ مَنْ  
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

**212.** Impilo yakulomhlaba iya-baheha labo abangakholwa; futhi benza inhlekisa ngalabo aba-kholwayo: kepha abalungileyo bayakuba ngaphezu kwabo (negerigaba) ngoSuku lokuvuka kwa-bafileyo. Ngempela uAllah Wabela labo Abathandayo ngaphandle kwesilinganiso.

**213.** Isintu besiwumgwamanda owodwa<sup>[1]</sup>; uAllah Wayeseletha iziThunywa nezindaba ezimnandi nezexwayiso, futhi Wembula kuzo iNcwadi ngeqiniso, ukuze yahlu-lele phakathi kwabantu ngalokho abahluke ngakho. Kwathi labo abayinikwa bona baphikisana bodwa mayelana nayo, ngemuva kwezibonakaliso ezicacile sezifikile kubona, ingenxa yenzondo phakathi kwabo. Kepha uAllah ngemvume yaKhe Wabaholela eqinisweni labo abakholwayo, elimayelana nalokho ababephiki-sana ngakho. Ngokuba uAllah Uholela Amthandileyo endleleni eqondile.

**214.** (Kepha) ingabe nicabanga ukuthi niyongena ejannat (Paradesi) ningazange nihlangabezane

كَانَ النَّاسُ أُقْرَأَةً قَاجِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ  
الشَّيْخَيْنَ مُشَرِّئِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ  
مَعَهُمُ الْكِتَابَ يَالْحَقِّ لِيَحْكُمُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَقَ  
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِهِ  
جَاءَتْهُمُ الْبِيِّنَاتُ بَعْيَابِدِهِمْ فَهَدَى  
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ وَمَنْ  
الْحَقُّ يَأْذِنْهُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  
إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ

أَمْ حَسِّنُهُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَا  
يَأْتُكُمْ مَثْلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ

[1] Funda incazel 55. Noma abantu behlukile ngenswebu, ngebala, noma ngezinwele: isiko linye ukuzithoba kuNkulunkulu. Kwakunjalo emandulo abantu babenokuzithoba ngolimi lesiArab sithi amaMuslim.

nalokho okwake kwehlela labo (ababekholwa) abanandulelayo na? Behlelwa okubuhlungu kanye namashwa, futhi bashukuma (emoyeni), kwaze kwathi uMprofethi kanye nalabo abakholwayo ababe naye bathi: «Luzanini usizo lukaAllah na?» Awu! Impela usizo lukaAllah luseduze!

**215.** Bakuba ngokufanele banikele<sup>[1]</sup> ngakho. Yithi: «Noma yikuphi okuhle eninganikela, ngakho, kubazali, nasezihlobeni, izintandane, nabasweleyo, kanye nabasohambeni; futhi noma yikuphi okuhle enikwenzayo, impela uAllah Uyakwazi».

**216.** Ukulwa nikumiselwe (ngokomthetho), kodwa niyakuzonda, futhi kunokwenzeka ukuthi nizonda into enokuba yinhle kinina, besenithanda into engeyinhle kinina. Kodwa uAllah Unolwazi nina anazi<sup>[2]</sup>.

### ISIGABA27.

**217.** Bakuba mayelana nokulwa ngenyanga eNgcwele. Yithi: «Ukulwa ngayo (kuyiphutha) elikhulu; kodwa ukwala ngamalungelo endleleni kaAllah,

قَبْلَكُمْ مَسْتَهُمُ الْبَاسِرُوْ وَالظَّرَاءُ  
وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِيْ يَقُولَ الرَّسُوْلُ  
وَالَّذِيْنَ امْتَنُوا مَعَهُ مَتَّى نَصْرَاللَّهُ  
الَّذِيْنَ نَصْرَاللَّهُ قَرِيْبُهُ

يَسْأُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا  
أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الْدَّيْنُ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَالْيَتَّمَّ وَالْمُسَكِّنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَا  
تَعْلَمُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

كُلَّ بَعْلَمْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُلُّهُ لَكُمْ وَعَسَى  
أَنْ تَكُرُّهُوْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ  
تُحِبُّوْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
وَأَنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

يَسْأُونَكَ عَنِ الْكَفَارِ الْعَرَامِ قَتَالٍ فِي  
كُلِّ قَتَالٍ فِيهِ كَيْرُ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَكُفُرُهُ وَالْمَسْجِدُ الْعَرَامُ وَأَخْرَاجُ

[1] Incazel o yomProfethi ithi uAllah wathi: «O, ndodana yomuntu, sebenzisa onakho, naMi futhi ngizochithekela enginakho kuwe».

[2] Funda nakulamavesi 153-157.

nokuMphiika, nokwala ngama-lungelo eMasjid eNgcwele, no-kuxosha amalunga ayo kuyo, (kubi) kakhulu kuAkkah, ngokuba incidezelo ingaphezu kokubula-la». Futhi abasoze bapheza uku-nilwisa ukuze banenze amambuka enkolweni yenu, uma kungenzeka. Kodwa kulabo phakathi kwenu abaqembuka enkolweni yabo, baze basicwe ukufa bephika ukholo, imisebenzi yabo ayizukuphumelela kulomhlabo kanjalo nakewLizayo; labo-ke bazokuba yiquestre lomlilo (wesihogo), bazophila kuwo ngo-naphakade.

**218.** Impela labo abakholwayo, kanye nalabo abadingiswa, futhi belwa (bezabalaza) besendleleni kaAllah, yibona labo abanethemba lomusa kaAllah: ngo-kuba uAllah Uyathethelela Unomusa<sup>[1]</sup>.

**219.** Bakubuza mayelana nezidakamizwa (notshwala) kanye nokubhejelana. Yithi: «Kunesono esikhulu kokubili kanye nenzozo kubantu; kepha isono sikhulu ngaphezu kwenzozo». Futhi bakubuza mayelana nomnikelo<sup>[2]</sup>. Yithi: «Lokho (okuhle) okuseleyo

أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ  
مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَرَأُونَ يُقَاتِلُونَ كُمْ  
حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنِ دِيْنِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوكُمْ  
وَمَنْ يُرَدِّدُ مِنْكُمْ عَنِ دِيْنِهِ فَإِنَّهُ  
وَهُوَ كَافِرٌ قَوْلِيَّكَ حَيْطَثُ أَعْمَالُهُ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوْلِيَّكَ أَصْحَابُ  
الثَّارَةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ<sup>④</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا  
وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِيَكَ يَرْجُونَ  
رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>⑤</sup>

يَسْلُوكَ عَنِ الْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ  
فِيهِمَا لَأَنَّهُمْ كَبِيرُونَ وَمَنَافِعُ الْمُنَاسِرِ  
وَإِنَّهُمْ مَا أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِيلِهِمَا وَيَسْلُوكَ  
مَاذَا إِنْ تَفْعُلُونَ هُوَ قُلِ الْعَوْنَى كَذِيلَكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَذَّكُمْ

[1] Funda amavesi 153-157.

[2] Funda incazelo 7 kwisahluko (Surah) 2:3, naku 2:215.

kinina». Kanjalo uAllah Unicacisela imibiko yaKhe, hleze nicabange.

**220.** Ngokusemhlabeni nakwe-Lizayo<sup>[1]</sup>. Bakubuza mayelana ne-zintandane. Yithi: «Eningabenzela kona okuhle, kepha uma ni-hambisana nabo, sebengabafowenu: ngokuba uAllah Uyamazi oqonde ukwenza ububi, nalowo oqonde ukwenza ubuhle. Futhi ukube uAllah Ubethandile, Ubenokunifaka ebunzimeni. Ngempela uAllah Unamandla, Uhlakani-phile».

**221.** Futhi ningaganwa neze abesifazane abakhonza izithixo, ngaphandle uma sebekholwa: ngokuba isigqilakazi esikholwayo singcono kunowesifazane okhonza izithixo, noma ngabe beniyenga. Futhi ningaganiseli abesilisa abakhonza izithixo, kuphela uma sebekholwa: ngojuba ngempela isigqila esikholwayo singcono kumomuntu okhonza izithixo, noma ngabe eseniyenga. Labo banime-mela emlilweni, kuyilapho uAllah Enimemela esivadeni (Jannat) kanye nase ntethelelweni ngentando yaKhe; futhi Ucacisa umbiko waKhe kubantu ukuze baM-khumbule.

تَنَفَّرُونَ ﴿٣﴾

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ  
الِّيمَنِيِّ قُلْ إِذْلِكُمْ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ  
تُحَذِّلُهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ  
مِنَ الْمُصْلِحَةِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتُمُوهُنَّ أَنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤﴾

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا لَدَكُمْ  
مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَجْبَرْتُمُوهُنَّ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا  
وَلَعَلَّهُمْ مُّؤْمِنُونَ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكِيْهِمْ وَلَا  
أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الشَّرِّ  
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
إِذْنِهِ وَيُبَشِّرُنَّ إِلَيْهِ لِلثَّائِسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥﴾

[1] Lomusho uqedela ivesi engenhla.

## ISIGABA28.

**222.** Bayakubuza (Muhammad) mayelana nokuya (kwesifazane) esikhathini. Yithi: «Siyisifo, ngakho-ke nibazile abasifazane uma besesikhathini, ningangeni kubo, baze bahlambuluke. Kepha uma sebezihlambil yilapho-ke seningangena kubo njengalokho uAllah Enimisele. Impela uAllah Uthanda labo abaphendukayo ezonweni, futhi Uthanda labo abazigcina behlanzekile.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجَحْيِضِ قُلْ هُوَ أَذَى  
فَاغْتَرَبُوا إِلَيْهِنَّ فَأَغْتَرَهُنَّ  
حَتَّىٰ يَظْهُرُنَّ فَإِذَا ظَهَرُنَّ فَأَنْوَهُنَّ مِنْ  
حَيْثُ أَمْرَكَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْتَّوَابَيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

**223.** Amakhosikazi enu ayizi-vande zenu; ngakho-ke ngenani ezivandeni zenu ngendlela eniyithandayo, kodwa nithumele (okuhle) kwandulele imiphefumulo yenu, futhi nesabe uAllah, nazi futhi ukuthi nizohlangana naYe. Shumayela izindaba ezimnandi kwabakholwayo.

نَسَاءٌ كُلُّ حَرْثٍ لَّهُمْ فَاتَّوْهُنَّ كُلُّ أَنْ شَتَّتُمْ  
وَقَدْ مُؤْلِفُ الْأَنْفُسِ كُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُّلْقُوْهُ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

**224.** Ningabaci futhi ngoAllah ezifungweni zenu eziphambene nokulunga ngempela nesabe uAllah, futhi nenze uxolo phakathi kwesintu: ngoba uAllah Uyezwa, Uyazi.

وَلَا يَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْصَةً لِّا يَمْكُرُّ أَنْ  
تَبَرُّوا وَتَنْقُوا وَتُصْلِحُوا وَعَوَادِينَ النَّاسِ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

**225.** UAllah Akazunibeka cala ngalokho ebeningakuhlosile ezi-fungweni zenu, kuphela kuzoba ngalokho obekuhloswe yizinhliziyo

لَا يُؤَاخِذُنَّ كُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلِكُنْ  
لَّيْوَأَخِذُنَّ كُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فَلَوْكُمْ وَلَهُ



zenu: ngoba uAllah Uyathethelala,  
Uyabekezelala.

غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٦﴾

**226.** Kulabo asebenze isifungo sokuzila amakhosikazi abo, mabalinde izinyanga ezine, eziyisinqumo; uma-ke sebeguqukile, ngempela uAllah Uyathethelala, Unomusa.

**227.** Kepha uma bezimisele kuphela ngokwahlukanisa-bheka, uAllah Uyezwa, Uyazi.

**228.** Abesifazane asebehlu kansiwe emendweni kumele balinde izinyanga ezintathu zokuya kwabo esikhathini: ngoba akuvumelekile ukuba bafihle lokho uAllah Akudalile esizalweni sabo, uma bekholwa kuAllah naso-Sukwini lokuGcina. Futhi abayeni babo kungangcono uma bebabuyisa kuleyonkathi, uma befisa ukuba babuyisane nabo futhi (abesifazane) banamalungelo afana nalawo (abesilisa) abhekene nabo ngobumnene, kepha amadoda anezinga elithexaxa kunabo. Ngempela uAllah Unamandla, Uhlakaniphie.

### ISIGABA 29.

**229.** Isaziso sesahlukaniso kumele siphimiselwe izikhathi ezimbili ( kuphela ), lapho-ke ( owsifazane ) angabuyiswa ngen-

لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ رِزْقِنَا هُمْ تَرْبُصُ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٧﴾

وَإِنْ عَزَمُوا الظَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ  
سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ﴿٨﴾

وَالظَّالِمُونَ يَتَرَكَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ تَلَثَّةَ  
فَرْوَحٌ وَلَا يَجِدُ لَهُنَّ أَنْ يَلْكُمُنَ  
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْضِهِنَ إِنَّ كُلَّ  
يُوْمٍ مَّا لِلَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَبِعُولَهُنَّ  
أَحَقُّ بِرَدْهَنَ فِي ذِلْكَرَانِ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  
بِالسَّعْوَدَةِ وَلِلرَّاجِلِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٩﴾

الظَّلَاقُ مَرْتَبٌ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ  
أَوْ سَرِيعٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِدُ

dlela ekahle, noma kwahlukaniswe kahle. Akuvumelekile kinina ukuthi nithathe izipho enabapha zona, ngaphandle uma nesaba ukuthi ningeze nakwazi ukugcina imigomo emiswe nguAllah: ngakho-ke uma nesaba ukuthi bangeze bakwazi ukugcina imigomo emiswe nguAllah, kulokho akusona isono kubona, uma owesifazane ebuyisela okuthile ukuze akhululeke. Lena yimigomo emiswe nguAllah; ngakhoke ningayeqi, ngokuba labo abeqa imigomo kaAllah yilabo abenza ububi!

لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا  
إِلَّا أَن يَنْهَاكُمُ الْأَيْقِيمَاءِ حَدُودُ اللَّهِ  
فَإِنْ خَفْتُمُ الْأَيْقِيمَاءِ حَدُودَ اللَّهِ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ يَدُهُ  
حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حَدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾

**230.** Ngakho-ke uma indoda isihlukanisile nomkayo, (esemazise kathathu), akasavumelekile kuyena ngemuva kwalokho, ngaphandle uma eseke wagana enye indoda; uma nayo seyehlukanisile naye, akusesona isono kubona bobalili uma bephinda beganana, futhi bebona ukuthi bazokwazi ukufeza izimiso zikaAllah: ngokuba lena yimigomo kaAllah, Uyicacisela labo bantu abanolwazi.

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلِنْ لَهُ مِنْ بَعْدِ  
حَتَّى شَنَكِهِ رُوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعُوا إِنْ  
ظَلَّتْ أَنْ يُقِيمَهُ حَدُودُ اللَّهِ وَتَلْكَ  
حَدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِلنَّاسِ يَعْلَمُونَ ﴿٤٨﴾

**231.** Futhi-ke lapho nehlukanisa nabesifazane, futhi sebeqede isikhathi sabo sokulinda (iddat; eyizinyanga ezintathu), ninokuba buyisa ngezivumelwano ezikahle,

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَعْنَ  
أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

noma nibakhulule ngezivumelwano ezinhle. Kepha nigababuyiseli ukuzobezwisa ubuhlungu neqa (iziyalo): ngokuba noma ubani owenza lokhu wona umphefumulo wakhe. Futhi ningayenzi inhlekisa imiyalo kaAllah (ngemisebenzi yenu), kepha nikhumbule umusa kaAllah kinina, kanye nalokho Anembulela kona eNcwadini, nobuhlakani Aniyala ngabo; niMeseabe uAllah futhi nazi ukuthi (ngempela) uAllah Wazi konke.

### ISIGABA30.

**232.** Uma nehlukanisa nabesifazane, futhi sebeqede isikhathi sabo sokulinda (iddat), ningabenqabeli ukuba bagane abayeni babo (bokuqala) uma sebevumeleni kahle. Lona umyalo kulowo phakathi kwenu okholwa kuAllah nasoSukwini lokuGcina. Lokho kunilungele kakhulu, futhi kuhlanzekile kinina: futhi uAllah Uyazi, nina anazi.

**233.** Omame futhi kumele ban-celise izingane zabo iminyaka emibili egcwele, kulabo abazimisele ukuqedela isikhathi sokunce-lisa. Futhi umsebenzi wokondla nokwembeswa nokunakekelwa komame ngendlela ekahle, kuse-mahlombe kayise womntwana. Akukho noyedwa okumele

أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا  
تُهِلِّكُوهُنَّ فِرَارًا لِتَعْذِيدُوهُنَّ وَمَنْ  
يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
وَلَا تَتَخَذُوا إِلَيْتِ اللَّهُ هُرُوا وَإِذْ كُرُوا  
نَعْمَتِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةُ يَعْظِلُكُمْ  
بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ قِبَلَئِنَ  
أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنَّ  
يَنْكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بِهِنَّهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ  
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَذْكُرُ لَكُمْ وَأَظْهِرُ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَالْوَالِدَاتُ يُرِضِّعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ  
كَامِلَيْنِ لِمَنْ آرَادَ أَنْ يُتَّمِّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
لَا تَنْكِفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسَعَهَا لِلْأَضْرَارِ وَالْدَّهَرِ

athweswe ngaphezu kwamandla akhe. Umame angehlushwe ngesimanga sengane yakhe, futhi naye ozalelwwe ingagne angehlushwe ngenxa yengane yakhe. Indlalifa imelwe yisimo esifanayo<sup>[1]</sup>. Uma futhi (abazali) befisa ukuyiyekisa ibele ngemuva kwezivumelwano sebebonisene, akunacala kubona, kanti uma nifisa ukumnika ozomncelisa (ibele), akunacala kuhela uma nizomkhokhela lowo ngokufanele. Ngempela nesabe uAllah, futhi nazi ukuthi uAllah Ubona konke enikwenzayo.

**234.** Kulabo abafayo beshiya amakhosikazi ngemuva, (abafelokazi) kumele bazile izinyanga ezine nezinsuku eziyishumi; umake sebesiqedile leso sikhathi, akunacala kinina ngalokho abahlele ukuzenzela kona ngendlela elungileyo. Futhi uAllah Ukwazi konke enikwenzayo.

**235.** Akunacala futhi ukwenza isethembiso somendo nabesifazane noma nisigcina ezinhлизي weni zenu. UAllah Uyazi ukuthi nizobakhumbula. Kepha ningensi izethembiso ngasese, ngaphandle uma nibazisa ngendlela evumele-kile; futhi ningensi izinqumo

بِوَلَدِهَا وَلَمْ يَوْلِدْ لَهُ بِوَلَدٍ وَعَلَى الْوَارِثِ  
مَثُلُّ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ افْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاءُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلَنْ  
أَرْدِخَانْ سَتَرْضُعُوا وَلَادُهُ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمْ أَذْ أَسْلَمُهُمْ تَائِبُهُ يَا الْمَعْرُوفُ  
وَأَنْقُوَ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَوْمَنَ  
بَصِيرٌ

وَالَّذِينَ يُبَوِّهُونَ مِنْهُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاحَهُ  
يَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَسْهُرٍ وَعَدْرَاءَ  
فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَاهِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا  
فَعَلُوكَنْ فِي أَنْفُسِهِنَ يَا الْمَعْرُوفُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
تَعْلَمُونَ خَيْرٌ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ يَهُ مِنْ  
خُطْبَةِ النَّسَاءِ أَوْ أَنْتُمْ فِي الْأَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ  
أَنَّكُمْ سَتَدْ كُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاذُهُنَّ  
سَرَّ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا يَعْزُمُوا

[1] Indlalifa nayo ingahlushwa ngesimanga sabazali.

eziphathelene nomendo (nabafelokazi) baze baqede isikhathi sabo sokuzila. Nazi futhi ukuthi uAllah Wazi okusezingqondweni zenu, ngakho-ke niMqapheli; nazi ngempela ukuthi uAllah Uyathelela, Uyabekezelala.

### ISIGABA31.

**236.** Akunacala kinina uma nahlukanisa nabesifazane kuyilapho ningakabathinti, noma ningakabanqumeli inxenye yesabelo sabo; nokho nibaphe izipho, isicebi senze nogukulingene namandla aso, nompofu ngokulingene namandla akhe, isabelo kube esigculisayo: lesi yisibopho kulabo abafuna ukwenza okuhle.

**237.** Uma futhi nahlukanisa nabo ningakabathinti, senibanqumele nesabelo esisemthethweni, kumele nibanike inxenye yalokho ebenibanqumele kona, ngaphandle uma bona besibuyisa, noma sipheleliswe yilowo umshado osezandleni zakhe (owesilisa). Ngempela ukusiphelelisa (lesosabelo) kanjalo kuwukulunga. Nigakhohlwa futhi ukwenzelana umusa phakathi kwenu: ngempela uAllah Ubona konke enikwenzayo.

**238.** Nimele imikhuleko kakhulukazi umkhuleko omapha-

عُقْدَةُ النِّكَارِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي الْفُسُكِ  
فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ  
حَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

لَاجْنَانَهُ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ الِاسْمَاءَ مَا لَمْ  
تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَرَأَضُوهُنَّ فِرِيقَةٌ  
وَمَمْتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى  
النَّفَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا لِيَعْرُوفَ حَقَائِقَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٥﴾

وَلَمْ يَطْلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
وَقَدْ قَرَضْتُمُوهُنَّ فِرِيقَةً فَرَضَفُ مَا  
فَرَضْتُمُوهُنَّ أَنْ يَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُوا الَّذِي  
يَبِدِّلُهُ عُقْدَةُ النِّكَارِ وَأَنْ يَعْفُوَ الْقُرْبَىٰ  
لِلْمُتَّقُوْنِ وَلَرَأَسُوا الْفَضْلَ بِيَنْكُلُهُ إِنَّ اللَّهَ  
يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٥﴾

حَانِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ

kathi; ngempela nime phambi kukaAllah ngokuzinikela.

**239.** Kodwa uma nihamba ngokwesaba, (nikhuleke) nimile, noma nigibe. Akuthi uma seni-sendaweni ephephile, nidumise uAllah ngendalela Anifundisa ngayo enaningayazi.

**240.** Kulabo abafayo phakathi kwenu beshiya abafelokazi, baba-shiyele isondlo sonyaka wonke, kanye nendawo yokuhlala. Kepha uma behetha ukuyishiya, akunacala kinina ngalokha abahlelele ukuzenzela kona ngendalela elungi-leyo. Ngempela uAllah Unamandla onke, Uhlakaniphile.

**241.** Kulabo abesifazane abathole isahlukaniso, mabathole isondlo ngendalela ekahle: lona umsebenzi walabo abanonembeza.

**242.** Ngalendlela uAllah Unicacisela imibiko yaKhe ukuze niqonde.

### ISIGABA32.

**243.** Awusakhumbuli yini (Muhammad) ngalabo abashiya imizi yabo beyizinkulungwane, ngenxa yokwesaba ukufa na? - ngalokho Wathi kubona: «Yifani» Waphinda futhi Wabapha impio. Ngokuba uAllah Unomusa

وَقَوْمًا لِلَّهِ قَنْتِينَ ﴿٢٥﴾

قَاتِنُ خَفْنَمْ فِرْجَالَا أَوْ زَيْبَانَاقَاتِدَّا مِنْهُ  
فَأَذْرَرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمْ مَا لَهُ تَلُوْنَا  
عَلَمُونَ ﴿٢٦﴾

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّونَ مِنْهُمْ وَيَنْدِرُونَ  
أَزْوَاجَهُمْ وَتَوْيَةً لِازْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى  
الْحَوْلِ عَيْرَ اخْرَاجٍ قَاتِنُ خَرْجَنَ فَلَكِبْنَاهَ  
عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ  
مَعْرُوفِي وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

وَالْمُطَّلَّقُتْ مَتَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِي حَقَاعَلَ  
الْمُتَّقِينَ ﴿٢٨﴾

كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتَهُ  
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٩﴾

أَقْرَرَ إِلَى الَّذِينَ حَرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ  
أُولُوْ حَدَرَ الْمَوْتِ نَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُؤْمِنُو ثَمَّ  
أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ قَضْيَةٍ عَلَى النَّايسِ

kubantu, kepha iningi labantu alinakho ukubonga.

**244.** Ngakho-ke yilwanini ngen-dlela kaAllah, futhi nazi ukuthi uAllah Uyezwa, Wazi konke.

**245.** Ubani lowo ozoboleka<sup>[1]</sup> uAllah ngalokho okuhle, ukuze Amandisele ngokuphindaphindiwe na? Ngokuba, nguAllah Onciphisayo, noWandisayo, futhi niyophindela kuYena.

**246.** Awukhumbuli yini ngaboholi kubantwana bakwaIsrayeli ngemuva kukaMose na? Lapho bethi kuMprofethi ababenaye: «Siqokele inkosi ukuze silwe ngen-dlela kaAllah!» Wathi: «Kungen-zeka yini ukuthi uma senimiselwe ukulwa ningabe nisakufuna ukul-wa na?» Bathi: «Singayeka kanja-ni ukulwa ngendlela kaAllah njengoba sadingswa emizini yethu kanye nabantwana bethu na?» Kepha kwathi uma sebeyalezwa ngokulwa babaleka bonke, ngaphandle kwedlanzana phakathi kwabo (elalwa); nokho uAllah Uyabazi abenzi bokubi.

**247.** Futhi uMprofethi wabo wathi kubona: «Ngempela uAllah

وَلِكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُونَ ②

وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَعْمَأُوا إِنَّ اللَّهَ  
سَيِّدُ الْعَالَمِينَ ②

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قُرْضاً حَسَنَا  
فَيُضْعَفَ لَهُ أَعْصَامًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْرِضُ  
وَيَبْطِئُ إِلَيْهِ تُرْجُونَ ②

أَكْثَرُهُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ يَنْبَغِي إِسْرَارَهُ يَلَى مَنْ بَعْدِ  
مُؤْسِى إِذَا قَاتَلُوا إِلَيْهِ لَهُمْ بَعْثَةٌ لَنَا مِلْكًا  
نَعَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتَلَ هُنَّ عَسِيْتُمْ  
إِنْ كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَا نَعَاتِلُهُمْ قَاتَلُوا  
وَمَا لَنَا أَلَا نَعَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ  
أُخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَيْنَا فَلَمَّا كُتِبَ  
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا لَا إِقْبَالًا مَمْهُومُ  
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ بِالظَّلَمِينَ ②

وَقَاتَلَ لَهُمْ تَيْمُونُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ

[1] Uma umuntu esebeenzisa isabelo sakhe emsebenzini kaAllah, uAllah Uthatha ngokuthi Ubolekiwe, futhi Uzokhokha. Funda incazelo 7 kwi-sahluko 2:3, naku 2:215, 2:219.

umise uSawuli (Twalut) ukuba abe yinkosi yenu». Bathi: «Angaba nobukhos i kanjani kithina, kanti yithina esifanelwe wubukhos i kuna ye, futhi enganikwanga nengcebo ngokwenele na?» UMprofethi wathi: «Ngempela uAllah Usemkhethile kunani, futhi Wamandisela ulwazi kanye nomzimba oqatha: futhi uAllah Unikeza ubukhos i baKhe lowo Amthandileyo futhi uAllah Wazi kabanzi».

لَمْ طَالُوتْ مَلِكًا قَاتَلُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ  
الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَمَعْنَى أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ  
وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ  
أَصْطَفَهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَ لَكُمْ سَطْرَةً فِي الْعِلْمِ  
وَإِنْسُرْهُ اللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ<sup>٦٧</sup>

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيٌّ هُمْ أَلِيَّةٌ مُلْكُهُ أَنْ يَأْتِيَكُمْ  
الثَّابُوتُ فِيهِ سِكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَقِيَّةٌ مِنْهَا  
رَرَكَ الْمُؤْنَى وَالْهَرُونَ تَعْمَلُهُ الْمُلْكَةُ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْةً لَمْ يَأْتِ كُنْدُمْ مُؤْمِنِينَ<sup>٦٨</sup>

**248.** Futhi uMprofethi wabo waqhubeka wathi: «Ngempela uphawu lobukhos i bakhe yilolu, kuzofika kinina ibhokisi (leNcwadi yomthetho) linokuyinduduzo kulla evela eNkosini yenu, kanye nokwasalela emndenini kaMose noAroni, liphethwe yizingelosi. Lokhu, bheka, kuwuphawu kinina uma ningabakholwayo».

### ISIGABA33.

**249.** Kwathi futhi lapho uSawuli ehamba namabutho wathi: «Ngempela uAllah Uzonivivinya ngasemfuleni: ngakho-ke lowo ozophuza kuwo, akasiyena owami, kephal lowo ongezuphuza kuwo-yena ngempela ungowami; ngaphandle kwalowo okhe ngesandla uzoxolelwa». Kepha iningi laphuza lapho, ngaphandle kwedlanzana kubona, Kwathi futhi lapho esewelete ngaphesheya (komfula),

فَلَمَّا قَصَلَ طَالُوتْ يَأْجُوَدُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ  
مُبْتَدِئٌ كُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَكَلِّيَّ  
مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَأَتَهُ مِنْ إِلَامَنْ اغْرَقَ  
عَرْقَهُ بِيَدِهِ فَتَرَبَوْا مِنْهُ إِلَاقِيلَامَنْهُ فَلَمَّا  
جَاءَرَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَاتَلُوا إِلَيْهِمْ  
إِلَيْهِمْ بِعَلْوَتٍ وَجَنُودٍ قَالَ الَّذِينَ يُظْفَنُونَ  
أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ كَهْرُونَ فَنَزَّهَ قَلِيلَةً

غَلَبْتُ فِتْنَةً كَثِيرَةً لِيَأْذِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الظَّاهِرِينَ<sup>٤٦</sup>

yena kanye nalabo ababekholwa bathi: «Asinamandla namuhla ukumelana noGoliyathi kanye namabutho akhe!» Labo ababekholwa ukuthi bayohlangana noAllah bakuza bathi: «Kukangaki idlanzana lebutho linqoba elikhulu ngentando kaAllah na? Ngokuba uAllah Ukanye nalabo ababekezelayo».

**250.** Kwathi futhi bengena enkundleni ukuba bahlangane noGoliyathi namabutho akhe bathi: «O, Nkosi yethu! Senze ukuba ababekezelayo, futhi Wenze amanyathelo ethu aqine, Usisize nalapho sesibhekene nabantu abangakholwayo!».

**251.** Kanjalo banqoba ngentando kaAllah, uDavide wabulala uGoliyathi; futhi uAllah Wamnika ubukhosи nobuhlakani, Wamfundisa futhi lokho Akuthandayo. Ngempela ukube uAllah Akgudluzi abantu ngabanye, umhlaba ubuzokonakala: kepha uAllah UyiNkosi yozwelo ezidalweni zonke.

**252.** Lena yimibiko kaAllah, eSikubikela yona ngeqiniso (Muhammad)- ngokuba wena ungomunye eziThunyweni.

**253.** Kulezi ziThunywa, ezinye

وَلَمَّا بَرَزَ الْجَالُوتُ وَجُنُودُهُ قَاتُلُوا رَبِّنَا أَفَرَغْ عَلَيْنَا صَدْرًا وَلَمَّا تُقْتَلَتْ أَنْدَامَنَا وَأَصْرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ<sup>٤٧</sup>

فَهُزِمُوهُمْ يَأْذِنُ اللَّهُ وَفُتَّلَ دَاؤُ دُجَالُوتِ وَاللَّهُ هُوَ الْمُلْكُ وَالْحَكْمَةُ وَعَلَيْهِ مَا يَشَاءُ وَلَنُلَادِقُ اللَّهُ الْكَافِرُونَ بَعْضُهُمْ يُغَيْرُ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَلَمِينَ<sup>٤٨</sup>

تَلَكَّ إِلَيْنَا نَتَلُّهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِلَّا كَلَمَنَ الْمُرْسَلِينَ<sup>٤٩</sup>

تَلَكَ الرَّسُولُ فَصَلَّى بَعْضُهُمْ

Sazipha ngaphezu kwezinye. Kwezinye uAllah Wakhuluma nazo Yena (mathupha); kwathi ezinye Waziphakamisa ngezinga. Futhi Samnika uJesu indodana kaMariya izibonakaliso ezicacile, Samqinisa futhi ngomoya oyiNgewe. Futhi ukube uAllah Wayethandile, izizukulwane ezalandela ngabe azilwanga zodwa emveni kokufika kwezibonakaliso ezicacile kuzona, kepha (noma kunjalo) abezwananga, abanye babo beholwa futhi abanye kubona bengakholwa. Kepha uma uAllah Wayethandile ngabe abalwanga bodwa: nokho uAllah Wenza lokho Akuhlosile.

### ISIGABA34.

**254.** O, nina enikholwayo! Nikelani ngalokho eSanabela kona<sup>[1]</sup>, ngaphambi kokuba kufike uSuku lapho kungasezukuba khona izivumelwano zokuthengiselana, nobungane kanye nokukhulumelana kungasekho. Futhi (ngempela) abaphika ukholo yibona abadukileyo!

**255.** UAllah! Akukho Nkulunkulu ngaphandle kwaKhe, Ophilayo njalo-njalo, Ongonaphakade. Akozeli futhi Yena

عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَهُ  
بَعْضُهُمْ دَرَجَتُ وَأَيْقَنَّا عِيسَى ابْنَ  
مَرْيَمَ الْبَيْتَنَتْ وَأَيْدِنْهُ بِرُوحِ الْقَدْسِ  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ  
مِنْ بَعْدِ نَاجَاءِهِمُ الْيَتِيمُتْ وَلَكِنْ لَخَلَقُوا  
فِيهِمْ مَنْ أَمَنَ وَمَنْهُمْ مَنْ لَكَرَّ لَوْ شَاءَ  
اللَّهُ مَا أَفْدَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ  
مَا يُرِيدُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفَقُوا مِثَارَةً فَلَمْ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْحِسْبَانَ فِيهِ وَلَا خُلْكَةٌ  
وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَفَّارُ هُمُ الظَّالِمُونَ

اللَّهُ لَآللَّهِ لَآللَّهِ أَحَدٌ الْقِيَومَةُ لَآتَاهُدُ  
سِنَةٌ وَلَا كَوْمَةٌ لَآلَهَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَقَارِنٌ

[1] Funda incazelo 85, nencazelo 7 kwisahluko 2:3, naku 2:215, naku 2:219.

Akalali. KungokwaKhe konke okusemazulwini nasemhlaben<sup>[1]</sup>. Ubani ongakhulumela omunye kuYena ngaphandle kwemvume yaKhe na?<sup>[2]</sup> Wazi okwakukhona nghaphambili, nokungemuva kwa-zo (izidalwa), lapho zingahaqe lutho zona elwazini IwaKhe, ngaphandle kwalokho okuyim-vume yaKhe. Isihlalo sobuKhosi baKhe songamel amazulu nomh-laba, futhi Akakhathazwa ukukulondoloza konke: Futhi Yena uPhakeme Mkhulu.

الْأَرْضُ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا  
بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا يَنْهَا إِنْ يُنْهِمُ وَمَا حَفِظَ  
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ  
وَسَعَةُ رُحْسِيَّةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَنْهَا  
حَفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَظِيمُ

لَا إِذَا كَانَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرِّشْدُ مِنَ  
الْغَيْرِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
فَقَدْ أَسْتَسْكَنَ بِالْعُرُوهَةِ الْوُثْقَى لَا يُفَضِّلُ  
لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

**256.** Akukho mpoqo enkolweni. Iqiniso licacile kunamanga: ngakho-ke lowo ogwema ukukhonza izithixo abesekholwa kuAllah, ubambelele esibambelelweni esiqinile esingasoze sadoncuka: ngo-kuba uAllah Uyezwa, Wazi konke.

**257.** UAllah UnguMngane noM-vikeli walabo abakholwayo. Uba-khipha ebumnyameni abalethe ek-uk hanyeni, kepha labo abango-kholwa bazwana nezithixo, ziba-khipha ekukhanyeni zibahlome zo ebumnyameni. Labo-ke bayi-qembu lomlilo (wesihogo): baphila kuwo ngonaphakade.

اللَّهُ وَلِنَّ الَّذِينَ امْتَنَوا بِغَرْجُورٍ مِنَ  
الظُّلُمَيْتِ إِلَى التُّورَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
أَوْلَئِكُمُ الظَّاغُوتُ بِغَرْجُورٍ مِنَ الْأَوْرُ  
إِلَى الظُّلُمَيْتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الشَّارِعَمْ  
فِيهَا خَلِدُونَ

[1] Uma sikhuleka konke sikucela kuAllah akekho omunye ngaphandle kwaKhe, ufakazi uvesi 256-257.

[2] Imvume iyonikezwa iziThunywa ngomhla wokuvuka.

## ISIGABA35.

**258.** Khumbula lowo owaphikisana noAbraham ngeNkosi yakhe, ngokuba Imuphe umbuso. Okwathi lapho uAbraham ethi: «INkosi yami yileyo Edale impilo Eletha ukufa». (Inkosi yezwe)<sup>[1]</sup> yathi: «Nami ngidala impilo futhi ngiletha nokufa». UAbraham wathi: «Ngempela uAllah Wenza ilanga liphume empumalanga, ngakho-ke wena yenze liphume entshonalanga». Lapho wajabhiswa kanjalo owayengakhola: ngokuba uAllah Akabaholi abantu abonayo.

**259.** Noma ngalowo owayedlula umzana osuwile ubhujiswe ngisho nophahla<sup>[2]</sup>, wathi: «Angawuvusa kanjani uAllah ngemuva kokubhujiswa kwawo na? UAllah Wamphuca umphefumulo iminyaka eyikhulu, Wayesephinda Emvusa. Wambuza Wathi: «Uhlale isikhathi esingakanani lapha na?» (Waphendula) wathi: «Nghihlale usuku noma inxenyen yosuku». (UAllah) Wathi: «Neze! Uhlale iminyaka eyikhulu! Kepha bheka ukudla kwakho nophuzo akonakele-bheka nembongolo yakho! Nokuthi Sizokwenza ube yisibo-

اللَّهُ تَرَأَى الَّذِي حَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ  
أَنْ أَثْلَمُ اللَّهُ الْبَلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ  
رَبِّيَ الَّذِي يُجْعَلُ وَيُمْبَيْتُ قَالَ آتَا أُنِي  
وَأُمِيَّتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَقَاتَ اللَّهُ يَأْتِي  
بِالشَّهِيْدِ مِنَ الْمُشْرِقِ فَأُتِبِّهَا مِنَ  
الْمَغْرِبِ فَبَهَتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ  
لَأَيْهِمْ بِالْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ<sup>٥٥</sup>

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ حَكَوَيَّةٌ  
عَلَى عُرُوشَهَا قَالَ أَنِي يُجْعَلُ هَذِهِ اللَّهُ  
بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّا مَاتَهُ اللَّهُ مَائَةَ عَامٍ ثُمَّ  
بَعْثَهُ قَالَ كَمْ لَيْبَثَ قَالَ لَيْبَثُ يَوْمًا  
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ كَمْ لَيْبَثَ مائَةَ  
عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ كُمْ  
يَتَسَهَّلُهُ وَانْظُرْ إِلَى جَمَارِكَ  
وَلَنَجْعَلَكَ أَيَّهَا لِلثَّالِثِ وَانْظُرْ

[1] Kwakungu Nimrod owayephikisana noAbraham (ukuthula kuge kuye).

[2] Lomuntu kwakungu Uzair, umuzi yiJerusalem.

nelo kubantu. Futhi bheka amathambo ukuthi Siwahlanganisa kanjani, bese Siwembathisa inyama!» Kwathi ukuba acacelwe yilokho wathi: «Ngempela ngiyazi (manje) ukuthi uAllah Unamandla phezu kwezinto zonke!»

**260.** Bheka, futhi, uAbraham wathi: «O, Nkosi yami! Ngibonise ukuthi abafileyo Ubavusa kanjani na?» Wathi (uAllah): «Ingabe awukholwa yini na?» Wathi (uAbraham): «Yebo (ngiyakhola), kepha (ngibuza) ukuze ngiculise ukuqonda kwami». Wathi (uAllah): «Thatha izinyoni ezine; uziffundise zikujwayele, bese uzibeka ngokwahlu kana kuleyo naleyo ntaba, ubese uzibiza. Zizoza kuwe ngesikhulu isivinini. Yazi-ke (ngampela) ukuthi uAllah Unamandla amakhulu, Uhlakaniphile».

### ISIGABA36.

**261.** Labo abesebenzisa lokho abanakho endleleni kaAllah, bafaniswa nohlamvu (lombila), omila ukhiphe izikhwebu eziyisikhombisa. Kuleso naleso sikhwebu kube nezinhlamvu eziyikhulu. Ngempela uAllah Wandisela kakhulu lowo Amthandileyo; futhi uAllah Unakekela konke, Wazi konke<sup>[1]</sup>.

إِلَيْكُمْ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ  
تَكُسُوُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ  
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ<sup>④</sup>

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرْزِقْنِي كَيْفَ تُبَرِّي  
الْمُؤْمِنَ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ بِمَا قَالَ بَلْ وَلَكِنْ  
لِي طَمِيقٌ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةَ مِنْ  
الظَّلَّافَصَرْهُنْ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَيْكِ  
جَبَلٌ وَنَهْنَهٌ جُزُءًا ثُمَّ ادْعُهُنْ يَا تَبَيَّنَكَ  
سَعِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>٥</sup>

مَثْلُ الَّذِينَ يُنْفِعُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي  
سَيِّئِ الْأَعْمَالِ كَمَثْلُ حَمَّةٍ أَتَبْيَتْ سَبْعَ  
سَنَابِيلَ فِي كُلِّ سُبْطَةٍ مِنْهُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ  
يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَارِسُمُ عَلَيْهِمْ<sup>٦</sup>

[1] Lamavesi 261-277 afakazelana ngomnikelo.

**262.** Labo abasebenzisa ingcebo yabo endleleni kaAllah, bengalandelisi izipho zabo ngoukhaza, nangokulimaza (abaswelayo); umvuzo wabo useNkosini yabo, ngempela abazukuba nakwesaba, futhi abazukuba nasizi.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
ثُمَّ لَا يُنْهَى عَنْهُمْ مَا أَنْفَقُوا مَنْتَهِيَ إِلَى أَذَىٰ  
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَنْزَهُونَ

**263.** Amazwi amnene nenthelelo, angcono kunosizo olulandelwa ukuphoxeka. Futhi uAllah Akadingi, Unobubele.

قُولُ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مَنْ صَدَقَ  
يَتَبَعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ عَنِ حَلِيمٍ

**264.** O, nina enikholwayo! Ningashabalalisi umnikelo wenu ngokuhaza, nokulimaza (imphefumulo yabanye), njengalabo abanikela ngoba befuna ukubonwa ngabantu, kepha bengakhowa kuAllah nasoSukweini oLuzayo: ngoba bafaniswa nedwala elinothuli lomhlabathi, lapho kuna imvula ishaya kulona lizhialele obala. Abanakwenza lutTho ngalokho abakuzuzayo: ngokuba uAllah Akabaholi abantu abangakholwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا أَصْدَقَتُكُمْ  
بِالْمِنَّ وَالْأَذَىٰ كَمَا لَدُنْ يُنْفِقُ مَالَهُ  
رَئِيْسُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
فَمَنْهُ كَمِثْلُ صَفْوَانَ عَلَيْهِ شُرُكَابٌ فَاصَابَهُ  
وَإِلَىٰ فَتَرَكَهُ صَدَدَ الْأَيْقَنِدُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا  
كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْمِلُ الْقَوْمَ  
الْكُفَّارُ

**265.** Futhi labo abasebenzisa ingcebo yabo ngoba bejunge injabulo kuAllah, nokuqiniswa kwemiphefumulo yabo, bafaniswa nesivande esiphezulu esivundile, okuthi uma imvula enkulu ina kuso sikhizise izithelo ngokuphindwe kibili; kuthi uma kungeyona imvula enkulu efinyelela

وَمَنْ كُلَّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ أُبْتَغَاءَ  
مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْيِيْتاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ  
كَمِثْلُ جَنَاحِ الْبَرْبُوْرِ أَصَابَهَا وَإِلَىٰ فَاتَّ  
أَكْهَا ضَعْفَيْنِ قَاتَلَهُمْ بِهَا وَإِلَىٰ

kuso, kube umswakama osaneli-sayo. Ngempela uAllah Ubona konke enikwenzayo.

**266.** Ingabe ukhona yini phakathi kwenu ofisa ukuba nesivande esinezithelo zesundu nomvini, kanye nemithombo ephuphuma ngaphansi kuso, esinayo yonke inhlobo yesithelo abeseyaguga, futhi izingane sakhe zisencane. (Isivande) bese sifikelwa yisishingishane nomlilo, ushise konke na? UAllah Unicacisela kanjalo imibiko yaKhe ukuze nicabange.

### ISIGABA37.

**267.** O, nina enikhholwayo! Nikelani ngokuhle enikuzuzile, nakuzezo zithelo zenu eSenza aiphume emhlabathini. Futhi ningahlosi ukuzuza okubi ukuze ninikele ngakho, kanti nina uqobo ningekwamukele ngaphandle kokuvala amehlo nincimfa. Yazini futhi ukuthi uAllah Akaswele lutho, Ufanelwe wudumo lonke.

**268.** Usathane unesabisa ngo-bumpofu, abeseniyala ngezenzo ezimbi, kanti uAllah Unethembissa uxolo kanye nomusa waKhe. Futhi uAllah Unakekela konke, Wazi konke.

فَطَلَّ وَاللَّهُ يَسْأَلُهُمْ بِصُدُورِهِمْ

إِيُّوْدَاهَدُكُمْ أَنْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً وَمِنْ  
تَخْلِيلٍ وَاعْتَابٍ يَجْرِيُ مِنْ تَعْقِيْبِ الْأَنْهَارِ لَهُ  
فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّرَبٍ وَأَصَابَةَ الْكَبِرِ وَلَهُ  
ذُرْيَةٌ ضَعَافَةٌ فَاصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ  
نَازٌ فَاخْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يَبْعِيْنَ اللَّهُ  
لَكُمُ الْأَيْتُ لَعَلَّكُمْ تَسْكُنُونَ شَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفِرَادَهُمْ مَعَ طَبِيبٍ مَا  
كَسَبُوكُمْ وَمِمَّا أَخْرَجَنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَأْتِيَنَا الْحَيَّيْشُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَا سُتُّمْ يَأْخِذُنِي هُوَ إِلَّا أَنْ تُعْصِيُّ  
فِيهِ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حِيمِيدٌ

أَشْيَاطُنُ يَعْدُكُمُ الْفَقَرُ وَيَأْمُرُكُمْ  
بِالْفُحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ  
وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

**269.** Unika ubuhlakani lowo Amthandileyo, futhi nalowo onikwe ubuhlakani, wemukele ngempela inzuzo echichimayo. Abekho futhi abanokukhumbula lokhu ngaphandle kwalabo aba-qondayo.

**270.** Noma yimuphi umnikelo eninikela ngawo, noma izifungo enifunga ngazo, ngempela uAllah Uyazazi; kanti izoni azinabalekeleli.

**271.** Uma nidalula umnikelo wenu lokho kuhle; ;kepha uma niwusitheza bese ufinyelela kwa-bampofu ngasese, lokho kuzoba ngcono kinina, futhi uzomela okunye ezonweni zenu. Futhi uAllah Ukwazi kahle konke enikwenzayo.

**272.** Akukho emandleni akho (Mprofethi) ukubaholela endleleni eqondile, kepha nguAllah Oholela lowo Amthandileyo endleleni eqondile. Futhi noma yikuphi okuhle eninikela ngakho kuyozuzwa yimiphefumulo yenu, nikwenza futhi lokho kuphela ngoba nihlose ukuhlangana noAllah: ngokuba noma yi kuphi okuhle eninikela ngakho, kuzobuyiselwa kinina, futhi anizuphathwa kabi.

يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ  
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا  
وَمَا يَدْرِي كُلُّ الْأُولُو الْأَلْبَابِ ④

وَمَا أَنْفَقُلُمْ مِنْ تَقْيَةٍ أَوْ نَذَرْتُ  
مِنْ ثَدْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ  
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ④

إِنْ تُبْدِي وَالصَّدَقَتِ فَبِعِمَّا هِيَ  
وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ  
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَقِيرٌ عَنْكُمْ  
مَنْ سَيِّئَ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ④

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَيْهُمْ وَلِكُنَّ اللَّهُ  
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا شَفَقُوا مِنْ  
خَيْرٍ فَلَا نُفْسِلُهُ وَمَا شَفَقُوا  
إِلَّا بِتِغَاءٍ وَجْهَ اللَّهُ وَمَا مُنْفِقُوا  
مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ  
لَا تُنْظَلِمُونَ ④

273. (Umnikelo) owalabo abaswele, bevinjwe umsebenzi kaAllah, abangakwazi ukuhamba (bazihwebele) ezweni. Lowo ongazi enokucabanga ukuthi bacebile, ngoba ebona ukuzithiba kwabo. Nizobazi ngezibonakaliso (zenzenzo) zabo: abahambi becela kubantu njalo Noma yikuphi okuhle enimikela ngakho, ngempeala uAllah Ukwazi kahle.

### ISIGABA38.

274. Labo abanikela ngengcebo yabo, (emsebenzini kaAllah) ebusuku nasemini, ngasese noma obala, ngempela umvuzo wabo useNkosini yabo, futhi abazukuba nakwesaba, abazukuba nasizi.

275. Labo abadla imali yenza-lo<sup>[1]</sup> abamile kahle, kodwa bamise okwalowo ophambaniswe uku-thintwa ngusathane. Imbangela ukuthi bathi: «Ukuhweba kuyefana nje nokuzalanisa ngemali» - kepha uAllah Uvumele ukuhweba Wakwenqabela ukuzalaniswa kwe-mali: ngakho-ke, noma ubani ngemuva kokwamukela umyalo ovela eNkosini yaKhe abese eyapheza, nokho uzogcina (inzuzu) yalokho osekwdlula, futhi udaba lwakhe lukuAllah; kepha

لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي  
سَيِّئِ الْأَوْلَادِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضُرُّهُ  
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ أَغْيَارًا  
مِنَ الْمُكْفِرِينَ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَهُمْ  
لَا يَسْتَلِعُونَ النَّاسَ إِلَّا حَافِظًا  
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
عَلَيْهِ ثُلُثٌ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ  
بِالْأَيْلُولِ وَالْمَهَارِ سِرًا وَعَلَانِيَةً  
فَأَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٤٧

الَّذِينَ يَا كُلُّهُمْ إِلَّا يَرْجُونَ إِلَّا كَمَا  
يَقُومُ الَّذِينَ يَتَّبِعُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ  
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا إِنْسَانًا بِيَدِهِ  
مِثْلُ الرِّبِّيْوَانِ وَأَحَلَّ اللَّهَ الْبَيْعَ وَحَمَّرَ  
الرِّبِّيْوَانَ حَيَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ  
فَإِنَّهُمْ فَلَكَ مَا سَلَفَتْ وَأَمْرَةٌ إِلَّا اللَّهُ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ التَّلَهُمْ

[1] UAllah Akayibusisanga imali eyinzalo kepha uyinzalo kepha uyiqa-lekisile.

noma ubani ophikelelayo owa-bahlobene nomlilo, bayophila kuwo ngonaphakade.

**276.** UAllah Akanakewehlisela isibusiso emalini eyinzalo, kepha Uyokwandi selo okunikelwe ngesihle: ngokuba (ngempela) uAllah Akabathandi bonke abangenakho ukubonga nabaile esonweni.

**277.** Ngempela labo aba khollwayo, benze nezenzo ezinhle, begcina umthandazo, futhi benikela kwabampofu, umvuzo wabo si useNkosini yabo. Abazukuba nakwesaba, futhi abazukuba nazi.

**278.** O, nina enikhholwayo! Yesabani uAllah, futhi nishiye izinsalela enzuzweni eyinzalo, uma (ngempela) ningamakholwa.

**279.** Ngokuba uma ningakwenzi lokho, niqaphele impi evela kuAllah nasesiThunyweni saKhe<sup>[1]</sup>; kuzothi uma niphenduka namukele ingqikithi (yemali) yenu (engena nzalo). Ningoni, futhi nani anizuphathwa kabi.

يَنْحَقُ اللَّهُ الرِّبُوَّا وَيُرِبِّي الصَّدَاقَاتِ  
وَاللَّهُ لَرْجُوبٌ كُلُّ كَفَّارٍ أَثِيُّوٌ ﴿٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرِّزْكَ لِهُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرُثُونَ ﴿٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْقُوَّا اللَّهَ وَذَرُوا  
مَا بَقِيَ مِنَ الْرِّبُوِّ إِنَّ كُلَّمُؤْمِنٍ

فَإِنْ كُنْتُمْ تَقْعِدُوا فَإِذْ دُعُوا يَحْرُبُ مِنَ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَإِنْ شُبُّحُ فَلَمْ رَعُوْسُ  
أَمْوَالَ اللَّهِ لَا يُنْظَلِّيُّونَ وَلَا يُنْظَلِّمُونَ ﴿٧﴾

[1] Impi lapha ichaza: Izingelosi, isiThunywa kanye nabakhholwayo besizwa nguAllah ukubhekana nalabo abangakholwa. Funda isahluko 3:121-129.

**280.** Kepha uma lowo (okwetayeo) esebunzimeni, nimuphe isikathi esenele (ukuze akwazi ukukhokha) ngaphandle kobunzima. Kepha uma nisiyeka njengomnikelo wabampofu, lokho kungangcono kakhulu kinina uma beninolwazi.

**281.** Futhi nesabe loloSuku enizobuyiselwa ngalo kuAllah, lapho yonke imiphefumulo iyo thola umvuzo ngalokho eyakuse benzelayo, futhi abazuphathwa ngokungemthetho.

### ISIGABA39.

**282.** O, nina enikhholwayo! Uma nithengiselana kwesinye isikhathi ngesikweletu nizibhale phansi. Umbhali futhi ashicilele isivumelwano ngeqiniso phakathi kwenu, futhi angenqabi ukubhala njengalokho afundiswa yena nuggAllah, ngakhoke makalobe. Akuthi lowo onelungelo (lokukweleta) abeke amazwi angalotshwa, esabe iNkosi yakhe uAllah, futhi anganciphisi lutho kulokho akukweletayo. Kepha uma lowo onelungelo lokukweleta eyisiwula, noma ebuthakathaka, noma engakwazi ukuzimela, la phoke ummeli wakhe amumele ngeqiniso. Kubekhona futhi ofakazi ababili besilisa, phakathi

وَإِنْ كَانَ دُونَعْرَةً فَنَظَرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ  
وَأَنْ تَصَدِّقُوا خَيْرَ الْحُكْمَانَ  
كُنُّتُمْ تَعْلَمُونَ ⑤

وَأَنْفَوَا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى  
الَّذِي شَطَّوْتُمْ كُلُّ نَفْسٍ تَأْكِسَتْ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑤

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْتَوْلَأُدَّا أَيَّتُمْ بِدِينِ  
إِلَى أَجَلِ مُسَيْئَى فَأَكْبِرُوهُ وَلَيُبَيِّنَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ  
يَتَبَّعَ كُمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَيَكُنْتُمْ وَلَيُبَيِّلُ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْعُقُوقُ وَلَيُبَيِّنَ اللَّهُ رَبَّهُ  
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا قَاتِلٌ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ سَيِّفِهَا أَوْ صَعِيقًا أَوْ لَا يَسْتَطِعُهُ  
ئِيلٌ هُوَ قَلِيلٌ وَلِيَشِيهِ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُهُ وَأَشْهِدُهُ مِنْ رِجَالِ الْكُفَّارِ  
لَمْ يَكُونُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ مِنْ  
كُنْزِهِنَّ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضَلَّ

kwenu. Kepha uma engekho amadoda amabili, ibe, yinye, kanye nabesifazane ababili kulabo abathandekayo kinina, babe ofakazi, ukuze uma omunye wabo enza iphutha, omunye akhumbule. Ofakazi futhi bangenqabi uma bebizwa. Futhi ningenqeni ukub-hala isivumelwano esincane noma esikhulu mayelana nesikhathi esinqunyiwe. Lokho kuhle kakhu-lu kuAllah, futhi kuwubufakazi obugcwele, ukuze kungabikho izinsolo phakathi kwenu, ngaphandle uma nithengiselana futhi ninikezana okwangaleso sikhathi, akuna sono uma ningakulobanga phansi. Kepha nibenofakazi lapho nithengiselana ngezivu-melwano, kodwa kungabikho ukuhlukumeza ufakazi noma umlobi; ngokuba uma nikwenza (lokho), ngempela lokho kuyisono kinina. Ngempela nesabe uAllah, ngokuba nguAllah Onifundisay. UAllah futhi Unolwazi ngezinto zonke.

**283.** Uma nisohambeni, nangamtholi umlobi, nikhiphe isibambiso esithize komunye: kodwa onikezwe isibambiso akhombise ukwethembeka ngokubuyisela isibambiso, futhi akhombise ukwesaba uAllah iNkosi yakhe. Futhi ningabufihili ubufakazi ngoba, ngempela lowo obufihlayo wakhe-

إِحْدَيْهُمَا فَتَدِيرُ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَىٰ  
وَلَآيَاتُ الشَّهِيدَاتِ إِذَا مَدُعُوا  
وَلَا سَنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا  
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجْلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ  
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْقَنَ  
إِلَّا تَرَىٰ نَفْوَ الْأَنْ تَكُونُ بِحَارَةً حَافِرَةً  
تُدِيرُ وَنَهَا بَيْسِكُمْ فَلَيْسَ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا  
وَأَشْهُدُ وَلِإِذَا يَعْتَمُ وَلَا يُضَادُ  
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هُوَ وَإِنْ تَقْعُلُوا  
فِي أَئْمَةٍ فَسُوقُ بِكُمْ وَإِنْ تَقْوَالُوهُ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
شَيْءًا عَلَيْهِ ④

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ لَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنٌ  
مَّقْبُوضَهُ فَإِنْ أَمِنَ بِعُضُمٍ بَعْضًا فَلَيُؤْذَ  
الَّذِي أَوْتَيْنَا أَمَانَةً وَلَيُعَقِّلَ اللَّهُ رَبُّهُ  
وَلَا كَنْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فِي أَئْمَةٍ

la isono enhliziyeni yakhe; futhi uAllah Wazi konke enikwenzayo.

### ISIGABA40.

**284.** Kungokuka Allah konke okusemazulwini nasemhlabeni. Futhi noma ngabe niyakufihla noma niyakwembula okusezinhli-ziyeweni zenu, uAllah Uzonahlulela ngalokhol; futhi Uyothethelela lowo Amhtandileyo, Ajezise futhi lowo Amthandileyo; ngokuba uAllah Unamandla phezu kwe-zinto zonke.

**285.** IsiThunywa sikhola yilo-kho okwembulwe kuso kuvela eNkosini yaso, (kanjalo) naba-kholwayo. Yilowo nalowo ukhol-wa kuAllah, nasezingelosini zaKhe, naseziThunyeweni zaKhe: «Asibandlululi noyedwa eziThunyeweni zaKhe», futhi bathi: «Siyezwa futhi siyalalela. Sicela intethelelo kuWe, Nkosi yethu, ngokuba isiphetho sikuWe!»

**286.** Akukho mphefumulo uAllah Awuthwesa ngaphezu kwa-mandla awo. Uthola okuhle okusebenzele, uhlupheke ngobubi obenzile: «Nkosi yethu! Ungasijezisi uma sikhohlwa noma siwela esonweni! Nkosi yethu! Ungasithwalisi umthwalo onjenga-lowo owawuthwesa labo base-nduto! Nkosi yethu! Ungasithwesi

إِنَّمَا قُلْنَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ

بِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ  
شׁُبׁُدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ  
يُحَايِسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْفُرُ لَمَنْ  
يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ  
رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ  
وَمَلِئَتِهِ وَلِنَّهُ وَرَسُولُهُ لَا نُقْرِضُ  
بَيْنَ أَحَدِنَا وَرَسُولِهِ وَقَاتُلُوا سَيِّدَنَا  
وَأَطْعَنُوا عَفْرَانَكَ رَبَّنَا  
وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ

لَا يَكِلُّ اللَّهُ نَفْسًا لَا وُسْعَهَا لَهَا  
مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اتَّسَبَتْ  
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ تَسْيِنَا  
أَوْ أَخْطُلْنَا إِنْ تَبْرَأْنَا وَلَا تَحْمِلْنَا عَلَيْنَا  
إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَا عَلَى الَّذِينَ مَنْ  
قَبِلُنَا إِنْ تَبْرَأْنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ

لَنَا يَهُ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا  
وَارْحَمْنَا نَاهَى أَنْتَ مَوْلَانَا فَاقْصُرْنَا<sup>عَنِ الْقَوْمِ الْكُفَّارِ</sup>

umthwali esingenawo amandla  
okuwumela! Susa izono zethu,  
Usithethelele, futhi Ubenomusa  
kithina! NguWena Oyisiphephelo  
sethu, sisize ukubhekana nalabo  
abangakholwayo!»



**SURAH AL-IMRAAN-**  
**UMNDENIKA IMRAAN**

شُورَّاً لِآلِ عِمْرَانَ

Egameni likaAllah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

1. Alif Lam Mim<sup>[1]</sup>.

2. UAllah! Akukho Nkulunkulu  
ngaphandle kwaKhe, Ophilayo,  
Ongonaphakade!

3. Wembula kuwena (Muhammad ) umbhalo ngeqiniso , ofakazela lokho obekukhona ngaphambili; futhi Wembula iTorah ( umthetho kuMose ), neInjil<sup>[2]</sup> ( iVangeli kuJesu ), ngaphambi kwalokhu, ukuze kuholwe isintu, futhi Wembula amandla okuhlunga (phakathi kokuhle nokubi).

4. Ngempela labo abangakho-  
lwa yizimpawu zikaAllah, bayoje-  
ziswa kanzima, futhi uAllah Uya -  
kwazi ukujezisa.

5. Ngempela, akukho lutho olu-  
fihlekile kuAllah, kungaba sem-  
hlaben'i noma emazulwini.

6. NguYena Onibumba esizal-  
weni ngendlela Ayithandayo.

إِنَّمَا يُحِبُّ الظَّاهِرِيُّونَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَهِ الْأَهْوَاءِ الْجَيْمُونِ

اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِنَّكَ أَنْتَ الْقَيْمُونُ

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا  
بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ الْقُورْنَةَ وَالْأُنْجِيلَ

مَنْ قَبْلَ هُنَّى لِلْتَّابِسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ  
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ هُمْ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقامَةٍ

إِنَّ اللَّهَ لَرَبِّ الْحَقِّ عَلَيْهِ شَفَاعَةٌ فِي الْأَرْضِ  
وَلَا رَبِّ لِلنَّاسِ

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُلَّ فِي الْأَرْضِ حَمَّامَكَيْفَ

[1] Funda incazel 5 ngalelibika.

[2] I-Injil yivangeli, ngesiZulu sithi yizindaba ezinhle noma ezimnandi.

يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Akukho Nkulunkulu ngaphandle kwaKhe, Onamandla, Ohlakani-phile.

7. NguYena Owembula kuwena (Muhammad) iNcwadi, enemibiko okuyiyona ngqikithi, nesisekelo, seNcwadi, kanti eminye iyimfane-kiso nje. Kepha labo inhliziyozabo ezisinga ukuphambuka ballandela imibiko eyimifanekiso, befuna okungavumelani futhi be-funa nencazelo yawo efihekile: kepha akekho owazi incazelo yawo ngaphandle kukaAllah. Ngakho-ke labo abagxile ngolwazi bathi: «Siyakhola kuyo yonke ivela eNkosini yethu-nokho ake-kho ozwisisayo ngaphandle kwa-labo abaqondayo.

8. «Nkosi yethu! Ungazivumeli izinhliziyo zethu ziphambuke, ngemuva kokuba Ususiholile, Usiphe futhi umusa ovela kuWena: ngemplela nguWena Ophana ngomusa ongabalwa».

9. «Nkosi yethu! Ngempela  
nguWena Ozoqoqela isintu nda-  
wonye ngaloloSuku olungengat-  
shazwe; impela, uAllah Akasoze  
Ahlulwa yisethembiso saKhe».

ISIGABA2.

10. Bheka, kulabo abanga-kholwa, kungaba yingcebo noma

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ إِلَيْكُمْ  
فَحَمَلْتُمْ هُنَّ أَمْرُ الْكِتَبِ وَأَخْرَمْتُمْ شَهِيمَتِ  
فَإِنَّا لِلنَّاسِ فِي قُلُوبِهِمْ رَبِيعٌ فَيَقْتَبِعُونَ مَا  
تَشَابَهَ مِنْهُ أَبْتَغِعَاءَ الْفِتْنَةِ وَأَبْيَعَا  
تَثَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَثَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ  
وَالرَّسُولُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْتَانِيَهُ  
كُلُّ مَنْ مُّعِنَّدَرِيَّتَنَا وَمَا يَدْكُرُ إِلَّا وَلُوا  
الْأَلْيَابِ ②

رَبِّنَا لَا تُرْغِبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ  
لَكَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ⑤

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَارْبِيعَ فِيَهُ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُفُ الْمِيعَادَ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تِغْيِيرٌ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ

uzalo lwabo alusoze lwabasiza phambi kukaAllah; yibona futhi labo abayokhashelwa emilweni!

**11.** Njengesizwe sikaFaro, kanye nalabo ababengaphambi kwabo: abangakholwanga yizimpawu Zethu, ngakho-ke uAllah Waye sebajezisa ngokona kwabo: ngoba uAllah Ujezisa kanzima.

**12.** Yithi kulabo abaphika ukholo: «Maduze nje nizonqotshwa, bese niqoqelwa ndawonye esihogweni, okuyindawo yokuhlala kanzima.

**13.** Senike nanikwa uphawu lapho amaqembu amabili amabutho ehlangana empini. Elinye iqembu laliwa lisendleleni kaAllah, kanti elinye laliMphika; futhi lelo lazibonela ngamehlo, (abakholy) kungathi bayisibalo esingaphezulu kwenani ababeyilo<sup>[1]</sup>. Kanjalo uAllah Usekela ngosizo lwaKhe lowo Amthandileyo. Lokhu bheka, kuyisifundo ngempela kulabo abanamehlo okubona.

**14.** Okutuswa ngabantu yilokho okubayengayo, njengesifazane, namadodana, izingqumbi zegolide

وَلَا أَفْلَأْدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُوَّةُ النَّارِ ﴿١٠﴾

كَذَابٌ إِلَى فِرْعَوْنَ لَا يَلِمُنَّ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَرِيكُ الْعَذَابِ ﴿١١﴾

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتَعْلَمُونَ وَتُخْتَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَهَادُ ﴿١٢﴾

فَذُكْرًا يَعْلَمُ فِي فَيَقْتَلُنَّ التَّقَاتَنَفَةَ لَقَاتِلُ فِي سَيْلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةً يَرُونَهُمْ مُشْلِحِينَ حَرَّاً لِلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤْيِدُ بِيَصْرَهُ مَنْ يَتَأَمَّلُنَّ فِي ذَلِكَ لِعَبْرَةً لِلْأُولَى الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

رُّبِّنَ لِلْكَاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ الْإِسَاءَ

[1] Incazelo uzoyithola kwisahluko 3:121-129.

nesiliva; amahhashi ohlobo lwe-khethelo: izinkomo kanye namasimu alinywe kahle. Injalo-ke ingcebo empilweni yakulomhlaba. Kepha kuAllah kunendawo engcono eninokubuyela kuyo.

**15.** Yithi: «Nginethulele yini izindaba ezimnandi vezinto ezingcono kunalezo na? Nakhu okwababo abagwema ububi, yizivande ezisondelene neNkosi yabo, ezinemifula egobhoza ngaphansi kuzo, bayophila kuzo kanye nezithandwa ezimsulwa, nokwene liswa nguAllah. Futhi uAllah Uyazi ngezincke zaKhe.

**16.** Lezo ezithi: «Nkosi yethu! Ngempela sesikholiwe: ngakho Sithethelele izono zethu, futhi Usihlenge ekujezisweni ngomlilo.

**17.** Labo ababekezelayo, futhi abaneqiniso bezithiba, nabezwayo, nabasebenzisa abakwabelwe, be-thandaza becela intethelelo ngezikathi zangovivi.

**18.** Ubufakazi bukaAllah (bu-thi): akukho Nkulunkulu ngaphandle kwaKhe, nezingelosi, kanye nalabo abanolwazi begxile emthethweni (bafakaza bathi): «Akukho Nkulunkulu ngaphandle kwaKhe, Yena Onamandla, Ohlananiphile».

وَالْمُبْتَدِئُونَ وَالْقَاطِنُونَ مِنْ  
الدَّهِيْبِ وَالْفَضَّلَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسْوَيَةِ وَالْأَعْنَامِ  
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ  
عَنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ⑯

قُلْ أَوْيَ شَكَرٌ بِغَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ آتَقْوَ  
عِشْدَ رَبِيعَ حَجَّ تَجْرِي مِنْ مَعْنَاهَا الْأَنْهَرُ  
خَلِدِيْنَ فِيهَا وَأَرْوَاجُ مُطَهَّرَةٍ وَرِضْوَانٌ  
مِنَ الظُّلُمَوْ وَاللَّهُ بِصَدِيقٍ إِلَى الْعِبَادِ ⑯

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّكَارَبَّنَا أَمْنًا فَأَغْفِرْنَا  
ذُنُوبَنَا وَقَاتَ عَذَابَ النَّارِ ⑯

الظَّبِيرِيْنَ وَالظَّدِيقِيْنَ وَالْقَنِيْتِيْنَ  
وَالثُّنْفِيْقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالسَّحَارِ ⑯

شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ  
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقُسْطِدِ لَرَبِّهِ  
إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْكَبِيرُ ⑯

**19.** Ngempela inkolo ephambi kukaAllah yiIslam (ukuzinikela kuYe). Nabo labo bantu beNcwadi baphambuka emveni kokuba ulwazi selwafika kubona, bona phakathi kwabo. ngakho-ke yilowwo nalowo ophika imibiko kaAllah, uAllah Uyashesha ukumgweba!

إِنَّ الَّذِينَ عَنْ دِرْرِ اللَّهِ الْأَسْلَمُ وَنَّا  
اَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ  
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْدَ اَبْيَانِهِمْ وَمَنْ  
يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  
الْحِسَابِ<sup>١٥</sup>

**20.** Uma bephikisana nawe, uthi: «Sengizinikele ngakho konke kuAllah, kanjalo nalabo abangilandelayo». Uthi futhi kulabo bantu beNcwadi, nalabo abanga-fundile: «Ingabe nani niyazinikela yini kuYena na?» Uma bezinikela, ngempela baholwe kahle; kepha uma behlehla nyova, -bheka, umsebenzi wakho ukwethula umbiko kuphela: ngokuba uAllah Uzibhekile izinceku zaKhe.

فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ  
وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَبَ وَالْأُمَّمِينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنَّ  
أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا  
عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ<sup>١٦</sup>

### ISIGABA3.

**21.** Impela labo abangakhola yimibiko kaAllah, futhi bebulala nabaProfethi ngokungemthetho, bebulala nalabo abafundisa abantu ukuziphatha kahle, baxwayisse ngesijeziso esibuhlulu.

إِنَّ الَّذِينَ يَكُفِرُونَ يَا آيَاتِ اللَّهِ  
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حِقٍّ وَيَقْتُلُونَ  
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقُسْطَمِ مِنَ النَّاسِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَّا بِإِلَيْهِمْ<sup>١٧</sup>

**22.** Yibo-ke labo imisebenzi yabo engena kuba nazithelo kulomhlaba nakweLizayo, futhi bengena kuba namsizi.

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَيَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
الْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ شَرِيكٍ<sup>١٨</sup>

**23.** Awubonanga yini labo abembulelwa inxyene yeNcwadi

أَلْخَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نِصْيَابًا مِنَ الْكِتَبِ

na? Bamenyelwa eNcwadini kaAl-lah, ukuze baxazulule izimpi-kiswano zabo, kepha abanye babo bahlehlela emuva futhi bephika.

**24.** Yingoba bethi: «Umlilo uzosihangula izinsukwana nje ezimbalwa». Lokho futhi abazi-qambela kona kubakhohlisile mayelana nenkolo yabo.

**25.** Ingabe bayokwenza njani, uma Sesibadidiyela ndawonye ngaloloSuku olungengatshazwe, lapho lowo nalowo mphefumulo uyomukeliswa ngalokho okuse-benzele ngokomthetho na?

**26.** Yithi: «O, Allah! Mnini wamandla nombuso! Unika um-buso lowo Omthandileyo, futhi Uphuca umbuso lowo Othande ukumphuca; Uphakamisa futhi isithunzi salowo Omthandileyo, Wehlise isithunzi kulowo Othade ukumehlisa. Esandleni saKho kundabo bonke ubuhle. Ngempela phezu kwakho konke nguWena Onamandla.

**27.** Wenza ubusuku ukuba bongamele imini, futhi Wenza nemini ukuba yongamele ubusuku, Wenza abaphilayo ngokufileyo, Uletha nokufa futhi kulabo abaphilayo. Wabela nalowo futhi Omthandileyo, ngaphandle kwesi-linganiso.

يُدْعَونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِكُمْ بِيَنْهُمْ نَحْنُ  
يَوْمَ فَرِيقُنَّ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعَرِّضُونَ

ذَلِكَ يَا أَيُّهُمْ قَاتَلُوا رَبَّاً لَا يَأْتِيَ مَعَهُ  
مَعْدُودٌ إِنَّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ نَّا كَانُوا  
يَقْرَئُونَ

فَلَيَقُولَّا إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ  
وَوُقِيتَ كُلُّ نَفْسٍ تَأْكِبَتْ وَهُمْ  
لَا يُظْلَمُونَ

قُلْ اللَّهُمَّ بِلَكَ تُؤْتَى الْمُلْكُ مَنْ شَاءَ  
وَتَنْزَعُ الْمُلْكُ مَنْ شَاءَ وَتَعْزِيزُ  
وَتَنْزِيلُ مَنْ شَاءَ بِيَدِكَ الْغَيْرُ  
إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

تُولِيهِ الْأَيْلَمْ فِي النَّهَارِ وَتُولِيهِ الْمَهَارَ فِي الْأَيْلَمْ  
وَتُخْرِجُ الْحَسَنَ مِنَ الْمَيْتَ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ  
مِنَ الْحَسَنِ وَتَرْزُقُ مَنْ شَاءَ بِغَيْرِ  
حِسَابٍ

**28.** Abakholwayo bangathathi labo abangakholwa nje ngabangane kunalabo abakholwayo; kepha uma bona bekwenza lokho, aluzukuba khona usizo lukaAllah; kuphela babe namaqhinga abo okuziphephisa kubona. Ngempela uAllah Uyanixwayisa Yena uqobo, futhi isiphetho sikuAllah.

**29.** Yithi: «Noma ngabe niyakufihla, noma niyakuveza okusezinhliziyweni zenu, uAllah Uyakwazi: ngokuba Wazi okusemazulwini, nokusemhlabeni; futhi uAllah Unamandla phezu kwezinto zonke».

**30.** NgaloloSuku yonke imiphefumulo iyohlangana nabo bonke ubuhle ebenzile, nabo bonke ububi ebenzile iyofisa engathi kungaba khona ibanga elide kakhulu phakathi kwayo nalokho (okubi). Ngakho-ke uAllah Uyanixwayisa Yena Uqobo, futhi uAllah Unomusa ezincekwini zaKhe.

#### ISIGABA4.

**31.** Yithi: «Uma niMthanda uAllah, landelani mina, uAllah Uzonithanda futhi Anithethelele izono zenu: ngokuba uAllah Unentethelelo, Unomusa».

لَا يَئْخُذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارِ إِنَّ أَوْلَىَهُمْ  
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَقْعُلْ  
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ  
تَنَعَّمُوا مِمْنَ ثَقْهَةٍ وَيُحِيدُ رُحْمَ اللَّهِ  
نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ<sup>②</sup>

فَلْمَنِ إِنْ تُخْفِوْمَا كَمِ فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدِوْهُ  
يَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ هُنْكِ شَيْءٌ قَدِيرٌ<sup>③</sup>

يَوْمَ تَجْهُدُ كُلُّ نَفْسٍ تَأْعِدُ لَتْ مِنْ خَيْرٍ  
تُخْضَرُ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّونَ أَنْ بَيِّنَاهَا  
وَبَيِّنَاهَا أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحِيدُ رُحْمَ اللَّهِ  
نَفْسَهُ وَاللَّهُ إِذَا وَقَىٰ يَأْعِدُهُ<sup>④</sup>

قُلْ إِنْ لَنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَإِنَّمَا يُحِبُّكُمُ اللَّهُ  
وَيَعْفُوْكُمْ لَكُمْ دُنْوِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>⑤</sup>

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِنَّمَا تَوَلَّ أَنَّهُمْ  
اللَّهُ لَا يُبْغِثُ الْكُفَّارِ ﴿١٧﴾

32. Yithi: «Thobelani uAllah, kanye nesiThunywa saKhe». Kephala uma behlehlela emuva, uAllah Akabathandi ngempela abangakholwa.

33. Ngempela uAllah Wamqoka uAdam noNowa, kanye nomndeni kaAbraham, nokaImran (ukudlulisa umbiko) emazweni onke.

34. Uzalo olunye lumphuma kolunye. (Impela) futhi uAllah Uyeyzwa Wazi konke.

35. Bheka! UmkaImran<sup>[1]</sup> wathi: «O, Nkosi yami! Impela ngizonikela kuWe ngokusesizalweni sami, emsebenzini waKho. Amukela lokhu kimina: ngempela nguWena kuhela Ozwa-konke, Owazi-konke!»

36. Kwathi ukuba abeletehe wathi: «O, Nkosi yami! Bheka, ngithole intombazanyana!» -kanti uAllah Wayazi kangcono ngakubelethile, ingani isilisa asifani nesifazane- «futhi sengimqambile nguMariya. Futhi impela, senginikele ngaye kanye nozalo lwakhe ukuba bahlengwe nguWena kusathane oqalekisiwe».

37. Kwayilapho iNkosi yakhe Imamukela ngokugcwele, wakhula

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ  
وَآلَ عُمَرَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿١٨﴾

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَيِّدُ  
عَلِيهِمْ ﴿١٩﴾

إِذْ قَاتَلَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّهِ إِذِنَّا لَّدَرْتُ لَكَ  
مَا فِي بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَقَبَّلَ مِنْيَ إِنَّكَ أَنْتَ  
السَّيِّدُ الْعَلِيُّ ﴿٢٠﴾

فَلَمَّا وَضَعْتُهَا قَالَتْ رَبِّيْ وَضَعْتُهَا  
أُنْتَشِيْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ  
اللَّهُ كَرِيْكَ لَأَنْتَشِيْ وَإِنِّي سَيِّدُهَا مَرِيْمَ وَلَيْسَ  
أَعْيُدُهَا يَكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ  
الرَّجِيْحِ ﴿٢١﴾

فَقَبَّلَهَا رَبِّهَا يَقْبُولُ حَسَنٌ وَأَبْنَتَهَا نَبِيْتَهَا  
حَسَنًا وَقَلَّهَا زَكَرِيَا كَلِمَادَخَلَ عَلَيْهَا

[1] Unina kaMariyam (Mariya).

kahle enesimilo eqashelwe nguZakariya<sup>[1]</sup>. Kwakuthi njalo uma uZakariya eya elawini eyombona, amthole enokudla. Athi: «Mariya! Kuvelaphi lokhuna?» (uMariya) Athi: «Kuvela kuAllah. Ngempela uAllah Wabela lowo Amthandileyo ngaphandle kwesilinganiso».

**38.** Lapho-ke uZakariya wa-khuleka eNkosini yakhe ethi: «O, Nkosi yami! Ngiphe ngomusa waKho uzalo olumsulwa: ngokuba nguWena ngempela Ozwa imi-khuleko (yonke)».

**39.** Izingelosi zamemeza lapho esakhuleka elawini: «UAllah Ukunika izindaba ezimnandi (zendodana) uJohane<sup>[2]</sup>, ongufaka-ziz weqiniso ngezwi likaAllah, uhloniphekile, umsulwa, futhi unguMprofethi ovela phakathi kwalungileyo».

**40.** (UZakariya) wathi: «O, Nkosi yami! Ngingaba nendodana kanjani, lokhu sengimdala kangaka, futhi nomkami eyinyumba na?» (Ingelosi) yathi: «Ngaleyondlela uAllah Ufeza lokho Aku-thandayo».

رَبِّكَ تَبَارَكَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ  
يَعْلَمُهُ أَنِّي لَكَ هَذَا قَاتَلْتُهُ مُهُومٌ عِنْدَ اللَّهِ  
إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ<sup>②</sup>

هُنَالِكَ دَعَاهُ زَكَرِيَّاً رَبَّهُ قَالَ رَبِّيْ هَبْ لِيْ  
مِنْ لَدُنْكَ ذَرِيْةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَيِّدُ  
الدُّعَاءِ<sup>③</sup>

فَنَادَهُ الْمَلِئَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصْلِي فِي  
الْبَحْرِ أَنَّ اللَّهَ يَبْشِرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا  
بِكَلْمَةِ مَنْ أَنْتُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَتَبِيَّاً  
مِنَ الصَّلِيْحِينَ<sup>④</sup>

قَالَ رَبِّيْ أَنِّيْ كَوْنُ لِيْ غَلْمَرٌ وَقَدْ بَلَغْتَنِيَ  
الْكِدْرُ وَأَمْرَأَقُ عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ  
يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ<sup>⑤</sup>

[1] UZakariya kwakungumalume kaMariya.

[2] UJohane (Yahya) owayebhaphathiza ngamanzi, owethu namhlanje siwuthola esahlukweni 2:138, funda nencazelo 51.

**41.** Wathi: «Nkosi yami! Nginiike uphawu!» (Ingelosi) yathi: «Uphawu kuwe ukuthi awuzukhuluma nabantu izinsuku ezintathu, uzosebenzisa izimpawu (zezandla) kuphela. Uhlale ngo-kukhumbula iNkosi yakho njalo, futhi Uyidumise ngokuhlwa nangokusa».

### ISIGABA5.

**42.** Bheka! Izingelosi zathi: «O, Mariya! Ngempela uAllah Uku-qokile, futhi Wakuhlanza, Waku-qoka phezu kwesifazane ezizweni zonke.

**43.** O, Mariya! Khonza iNkosi yaKho ngenhlonipho, uwe ngobuso, ukhothame (emthandazweni) kanye nalabo abakhothamayo».

**44.** Lezi yizindaba ngezinto ezingabonwayo, eSikwembulela zona (Muhammad). Wawungekho phakathi kwabo lapho benza inkatho ngemicibisholo, behlola ozoba ngumqapheli kaMariya, futhi wawungekho lapho bephikisana.

**45.** Bheka! Izingelosi zathi: «O, Mariya! UAllah Ukunika izindaba ezimnandi ngezwi eliphuma kuYena: igama (lomntwana) ku-zoba nguMesiya (uKrestu) uJesu, indodana kaMariya, ehloniphekile

قَالَ رَبِّيْ اجْعَلْنِي اِيَّهُ مَا قَالَ اِيَّتَكَ  
اَلَّا تَعْلَمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اِيَّامٍ لَا رَمَضَانَ  
وَادْكُرْنِي كَثِيرًا وَسِيَّهًا بِالْعَشِيَّ  
وَالْأَبْكَارِ

وَلَذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمِّينُهُ اِنَّ اللَّهَ  
اَصْطَفَكِيْ وَطَهَرَكِيْ وَاصْطَفَكِ عَلَى  
نِسَاءِ الْعَلَمِيْنَ ②

يَمِّينُهُ اَقْنَتِيْ لِرَبِّكَ وَسُجْدَى وَارْكَعَى  
مَعَ الرَّكِعَيْنَ ②

ذَلِكَ مِنْ آتِيَّةِ الْغَيْبِ نُوحِيَهُ إِلَيْكَ وَمَا  
كُنْتَ لَدَيْهُمْ اذْيُلُقُونَ اَقْلَامُهُمْ اِيَّهُمْ  
يَكْفُلُ مَرِيمَهُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهُمْ اذْ  
يَخْصِمُونَ ②

اَذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمِّينُهُ اِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكِيْ بِحَكْمَةِ  
مِنْهُ ذِيْنَمَهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى اُبْنُ مَرِيمَهُ  
وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ  
الْمُقْرَبَيْنَ ③

kuleli nakwe-Lizayo, futhi uzoba kanye nalabo abasondelene (noAllah)».

**46.** Uzokhuluma futhi nabantu kusukela esembelekweni noma esekhulile, futhi uzoba omunye wabalungileyo».

**47.** Wathi (uMariya): «O, Nkosi yami! Ngizoba nendodana kanjani, lokhu indoda ingakaze ingithinte na?» Yathi (iNgelosi): «Noma kunjalo: uAllah Udala ngendlela Ayithandayo, uma Ehlose ukwenza utho, umane Athi: 'Yenzeka!' -bese kwenzeka».

**48.** UAllah Uzomupha ulwazi lweNcwadi, nobuhlakani, noMthetho<sup>[1]</sup> kanye neVangeli.

**49.** AbeyisiThunywa futhi kubantwana bakaIsrayeli (athi): «Ngithunyelwe kinina nophawu luvela eNkosini yenu. Ngalo nginenzela ngobumba isimo senyoni, ngiphefumulele kulo bese lumphenduka luba yinyoni ngentando kaAllah; futhi ngiphilisa labo abazelwe beyizimpumputhe , nabanobulephelo, ngivusa futhi nabafile ngentando kaAllah. Ngi-

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا  
وَمِنَ الصَّالِحِينَ ④

قَالَتْ رَبِّي أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَسْتَسْعِي  
بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا  
قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ⑤

وَيَعْلَمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَالْتَّوْرَةُ  
وَالْإِنْجِيلُ ⑥

وَسُوْلَالِي بَنِي إِسْرَائِيلَ هَذِهِ قَدْ جَعَلْتُمُ  
بِأَيْتَهُ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ أَخْلُقُ الْمُؤْمِنِينَ الطَّيْبِينَ  
كَهْيَنَةُ الطَّيْبِ قَاتِفُهُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْبًا ذَلِكَ  
اللَّهُ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأَنْجِي الْمُؤْنَى  
بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَتَيْدُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا  
تَدَّخِلُونَ فِي بَيْوِكُمْ مَذَانَ فِي ذَلِكَ  
لَأَيْهَهُ لَمْ يَأْنَ لَكُنُوكُمْ مُؤْمِنِينَ ⑦

[1] I-Torah umthetho owembulwa kuMose entabeni yaseSinayi.

nazisa futhi ngalokho enikudlayo, kanye nalokho enikugcina ezindlini zenu. Bheka, kukho konke lokhu ngempela kunophawu kini-na uma ningabakholiweyo».

**50.** «Futhi ngizo gwalis iTorah (umthetho) owawungaphambi kwami, ngizo nixegisela kokunye obekungavumelekile kinina. Ngize kinina futhi nophawu oluvela eNkosini yenu. Yesabani uAllah, futhi ningilalele.

**51.** Ngempela uAllah UyiNkosi yami, futhi UyiNkosi yenu; ngakho-ke Mkhonzeni. Lena yindlela eqondile».

**52.** Kwathi ukuba uJesu abone ukuthi abakhola wathi: «Ubani ozongisiza kulendlela kaAllah na?» Abafundi bakhe bathi: «Singabasizi bakaAllah, sikholwa kuAllah, futhi wena yibangufakazi ukuthi thina singamaMuslim (abathobela uAllah)!

**53.** O, Nkosi yethu! Siyakholwa kulokho Osukwembulile, futhi silandela isiThunywa, ngakho-ke Sibhale kanye nalabo abafaka-zayo».

**54.** Benza uzungu (abanga-

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِيهِ  
وَلَا يُحِلُّ لِكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ  
وَجِئْنَاهُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَسُولِنَا فَأَتَقُولُونَ  
وَأَطِيعُونَ<sup>⑤</sup>

إِنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاحْبُّدُوهُ هَذَا صَراطٌ  
مُسْقَيْتُمُ<sup>٦٩</sup>

فَأَمَّا أَحَشَّ عَيْنِي مِنْهُمُ الْكُفَّارُ قَالَ مَنْ  
أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ سَخْنُ  
أَنْصَارِ اللَّهِ أَمَّا إِلَيْهِ وَأَشْهَدُ إِلَيْهِ  
مُسْلِمُونَ<sup>٧٠</sup>

رَبَّنَا أَمَّا بِمَا أَنْزَلْتُ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ  
فَكُلُّنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ<sup>٧١</sup>

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ

kholwa), noAllah Wenza icebo (ukubhekana nabo); futhi uAllah Ungcono kunabenza uzungu<sup>[1]</sup>.

### ISIGABA6.

**55.** Bheka! UAllah Wathi : «Jesu! Ngempela ngizokuthabatha ngikwenyusele kiMi, Ngikuham-bulule kulabo abanga kholwa<sup>[2]</sup>; ngenze laba abakulandelayo ba-bengcono kunalabo abangakho-lwa kuze kube ngoSuku loku-vuka. Ngakho-ke nizobuyela ki-Mi Nginehlulele ngalokho ebeni-phikisana ngakho».

**56.** «Uma kuyilabo abanga-kholwa, Ngizobajezisa kanzima, kulomhlaba nakeweLizayo, futhi abazukuba namsizi».

**57.** «Kanti labo abakholyo benze nezenzo ezinhle Uzobakho-khela umvuzo ngokugcweli: ng-okuba uAllah Akabathandi abenza ububi».

**58.** «Lokhu eSikuchazela kona ngemibiko, kuyisikhumbuzo nobuhlakani».

الْمُكَبِّرُونَ ﴿٥﴾

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى إِنِّي مُتَوَلِّكٌ  
وَرَافِعُكُمْ إِلَيَّ وَمُظْهِرُكُمْ مِنَ الظِّنَّينَ  
كُفَّرٌ وَأَوْجَاعُلُ الظِّنَّينَ أَتَبْعَوْكُمْ فَوْقَ  
الظِّنَّينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ لَمَّا  
مَرَجَعُكُمْ فَأَخْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيهَا لَكُنُوكُمْ  
فِيهَا تَخْتَلِفُونَ ﴿٦﴾

فَأَمَّا الظِّنَّينَ كُفَّرٌ وَأَفْعَدُهُمْ عَذَابًا  
شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ  
مِنْ نُصُرَّتٍ ﴿٧﴾

وَأَنَّ الظِّنَّينَ امْتَوْأَوْعَمُوا الصِّلْحَتِ  
فَيُوَقِّيْهُمْ أَجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَأَعْلَمُ  
الظَّلِيلِينَ ﴿٨﴾

ذَلِكَ نَتْوْءُهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْآيَاتِ وَالَّذِي  
أَحْكَمْنَا  
الْحَكِيمُونَ ﴿٩﴾

[1] Uzungu olwenziwa amaJuda ukubulala uJesu, kanti icebo likaAllah kwaba ukumhlenga. Ibhayibeli lithi: wasindiswa ekufeni uJesu (ukuthula kube kuye) Heberu 5:7.

[2] Babefuna uJesu ahlazeke ngokufela emthini: «Ophanyekiweyo uqale-kisiwe nguNkulunkulu». Dut. 21:23. UJesu (ukuthula kube kuye) akaweli kulesosigaba sokufa ngalendlela eqalekisiwe.

**59.** Ngempela iyefana indlela adalwa ngayo uJesu nguAllah, izifanelia nekaAdam. Wamdalwa ngothuli, Wathi kuye: «Yenzeka». Kwenzeka.

**60.** Leliqiniso livela eNkosini yakho; ngakho-ke ungabi womunye wabangabazayo!<sup>[1]</sup>

**61.** Futhi noma ubani ophikisana nave ngaloludaba, ngemuva kokuba ulwazi selufikile kuwena, uthi: «Wozani! Sihlangane ndawonye, amadodana ethu kanye namadodana enu, amakhosikazi ethu kanye namakhosikazi enu, thina kanye nani; masithandaze sijule sicele isiqalekiso sikaAllah, sibe kulabo abaqamba amanga phakathi kwethu!»

**62.** Bheka! Loluwudaba lweqiniso: akukho Nkulunkulu ngaphandle kukaAllah, futhi ngempela uAllah Unamandla, Uhlakaniphile.

**63.** Kepha uma behlehla nyova, ngempela uAllah Unolwazi olugcwele ngezigangi.

### ISIGABA7.

**64.** Yithi: «O, bantu beNcwadi!

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ ادْمَ حَنْقَلَةَ  
مَنْ تُرَأِيْ ثُرَّقَالَ لَهُ كُنْ قَيْكُونْ<sup>①</sup>

أَعْنَّ مَنْ رَّيْكَ فَلَا كُنْ مِنْ  
الْمُسْتَرِيْنَ<sup>②</sup>

فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَأَكَ وَمَنْ  
الْعِلْمُ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَنُوكَ  
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُوكَ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُوكَ  
ثُمَّ نَبْتَهُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى  
الْكَذِيْرِيْنَ<sup>③</sup>

إِنَّ هَذَا الَّهُوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ  
إِلَّا اللَّهُوَ إِلَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ  
الْحَكِيمُ<sup>④</sup>

قَاتُ تَوَلَّنَا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْهِ بِالْمُقْسِيْرِيْنَ<sup>⑤</sup>

فُلْ يَأْهَلَ الْكَذِيْرَ تَعَالَوْا إِلَى الْحَمْدَةِ

[1] UAllah lapha Usicacisela ngokudalwa kukaJesu, kufana nciamashi nokudalwa komuntu wokuqala; wadalwa kungekho muntu ophilayo emhlabeni.

Asivumelaneni ngezwi elilodwa phakathi kwethu kanye nani, ukuthi asikhonzi lutho ngaphandle kukaAllah, nokuthi asiMbangqi nalutho, nokuthi asizuthatha abanye nje ngamaKhosi esikhundleni sikaAllah<sup>[1]</sup>. Kepha uma behlelha nyova, nithi: «Yibani ngofakazi ukuthi singamaMuslim (abazini-kele kuAllah)».

**65.** «O, bantu beNcwadi!<sup>[2]</sup> Kungani niphikisana ngoAbraham, kanti uMthetho neVangeli kwembulwa ngemuva kwakhe na? Anina kuqonda na?»

**66.** Bheka! Niyilabo asebangen-elwa ukuphika, ngisho nangezinto enizaziyo! Manje niphikiselani izinto eningenalo ulwazi ngazo na? UAllah ngempela Owaziyo, nina anazi lutho!»

**67.** UAbraham wayengesiye umJuda noma umKrestu; kepha waye kholwe ngokweqiniso eyi-Muslim, futhi engaMbangqi uMdali kanye nezithixo.

**68.** Ngempela labo bantu

[1] «INkosi (uAllah) uNkulunkulu wethu, iNkosi yinye». Marko 12:29 Funda isahluko 3:79-80, 112:1-4.

[2] Lapha uAllah Wayekhuluma nabantu asebathola izambulo zaKhe, phakathi kwabo amaJuda namaKrestu.

سَوَاءٌ بَيْنَا وَبَيْنُكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ  
وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَعَذَّبَ عَنْكُمْ  
بَعْضًا أَرْبَابًا مَنْ دُونَ اللَّهِ قَاتُونَ  
تَوَلَّنَا فَقُولُوا اشْهُدُوا إِنَّا مُسْلِمُونَ

يَأَهْلُ الْكِتَبِ لَمْ يَحْمِلُوهُنَّ فَإِنْ بُرْهَمُهُ  
وَأَتَتْرِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَامُ  
بَعْدَهُمْ أَفَلَا تَتَعَقَّلُونَ

هَآنُتُمْ هُؤُلَاءِ حَاجِجُهُمْ فِيهَا  
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تَحْمِلُوهُنَّ  
فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصَارَائِيًّا  
وَلِكُنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ  
مِنَ الْمُشَرِّكِينَ

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ

abahlobene kakhulu noAbraham, yilabo abamlandelayo, njengoba kwenza lomProfethi, kanye nalabo abakholwayo. UAllah futhi Un-guMhlensi (noMngane) walabo abakholwayo<sup>[1]</sup>.

**69.** Kuyinjongo yabanye phakathi kwabantu beNcwadi ukuba baneduse: kanti bazilahlekisa bona uqobo kepha ababoni.

**70.** O, bantu beNcwadi! Kungani niphika izimpawu zikaAllah, nibe nina uqobo lwenu ningofakazi ngazo na?

**71.** O, bantu beNcwadi! Kungani nisitheza iqiniso ngamanga, futhi nifihla iqiniso nibe nilazi na?

### ISIGABA8.

**72.** Inxene ye yabantu beNcwadi ithi: «Kholwani kulokho okwembulwe kulabo abakholwayo ngezikathathi zasekuseni, futhi nikuphike okokugcina kuso<sup>[2]</sup> hleza babuye.

**73.** Futhi (bathi): «Ningakholwa (abanye) ngaphandle kwalowo osenkolweni yenu». Yithi (Muhammad): «Ukuholwa kwequi-

[1] UAbraham wayemesaba uNkulunkulu futhi elungile, waze waziwa ngokuthi umngane kaNkulunkulu; waziwa futhi njengoyise wabakholwayo.

[2] Kuso isambulo.

اَتَبْعُوهُ وَهُدَى النَّبِيُّ وَالَّذِينَ  
اَمْنَوْا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ④

وَدَّتْ طَلَاقَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ  
لَوْ يُضْلُّنَا كُمْ، وَمَا يُضْلُّنَ  
إِلَّا اَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ④

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكُفُّوْنَ بِمَا يَتَبَطَّلُ  
وَكَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ④

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَلِسُّوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ  
وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَآنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ④

وَقَاتَتْ طَلَاقَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَمْنَوْا بِالَّذِي  
أَنْبَلَ عَلَى الَّذِينَ اَمْنَوْا وَجْهَ التَّهَارَ وَالْكُفْرَ وَ  
اُخْرَهُ لَعْنَاهُمْ يَرْجِعُوْنَ ④

وَلَا تُؤْمِنُوا بِالَّذِينَ تَبْغِيْهُ دِيْنُكُمْ قُلْ إِنَّ  
الْهُدَى هُدَى اللَّهُ أَنْ يُبَوِّقَ أَحَدًا مِّنْ  
مَا أَنْتُمْ بِهِمْ أَوْ يُحَاجِجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ

فُلِّ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتَيْهِ مَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ⑦

niso ukuholwa nguAllah: (nesaba) ukuthi omunye unikezwe lokho enanikezwa kona, nokuthi bazoqhudelana nani phambi kweNkosi yenu na? Ngempela konke okuhle kusezandleni zikaAllah, Upha lowo Amthandileyo, futhi uAllah Usingathe konke, Wazi konke.

**74.** Umusa waKhe Uwukhethele lowo Amthandileyo. Futhi uAllah UyiNkosi yomusa ongapheliyo».

**75.** Phakathi kwabantu beNcwadi, kunalowo okuthi uma ungamphathisa ingqumbi yegolide, engayibuyisela kuwena; kepha abanye uma ungapbathisa uhlamvu olulodwa lwesiliva, bengeke balibuyisele kuwe, ngaphandle kokuba ubabelesele njalo, njalo. Kungenxa yokuthi bathi: «Akunamsebenzi ukwephula isethembiso kwabezizwe». Ngempela bakhuluma iphutha ngoAllah, futhi bayazi.

**76.** Kulabo abagcina izethembiso zabo, futhi begwema nokubi, ngempela uAllah Uyabathanda labo ababugwemayo.

**77.** Ngempela labo abagudluka ezivumelwaneni zabo noAllah, kanye nenkolo yabo, ngenxa yenzuzo encane, labo-ke abanaso

يَحْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⑧

وَمَنْ أَهْلَ الْكَنْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ  
يَقْنَطُ إِنْ يُؤْتَهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ  
تَأْمَنْهُ بِإِيمَانِهِ لَا يُؤْتَهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا  
دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِإِنْهُمْ قَاتُلُوا  
لَكُمْ عَلَيْنَا فِي الْأُمَمِ سَيِّئُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى  
اللَّهِ الْكَذَبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ⑨

بَلِّ مَنْ أَوْقَى بِعَهْدِهِ وَأَنْقَلَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ ⑩

إِنَّ الَّذِينَ يَشْرِكُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآثَارَ نَحْمُ  
شَمَنًا قَبِيلًا أُولَئِكَ لَأَخْلَاقَ لَهُمْ

isabelo kweLizayo: futhi noAllah Akazukhuluma nabo, Akazubabuka futhi Akana kubahlanza. Impela bazojeza kabuhlungu.

فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُرَى إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ⑤

**78.** Futhi kunequembu labo elidunga iNcwadi ngolimi lwabo, ningaze nicabange ukuthi kuyinxene yeNcwadi, kanti akusiyo (inxene) yeNcwadi; futhi bathi: «Lokhu kuvela kuAllah». Kepha kungaveli kuAllah: ngempela beqamba amanga ngoAllah, futhi bazi kahle.

وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَكُونُ أَسْنَدَهُمْ  
بِالْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَمَا هُوَ  
مِنَ الظَّالِمِينَ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عَنْدِ  
اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى  
اللَّهِ الْكَذَبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ⑥

**79.** Akusoze kuthi umuntu onikezwe iNcwadi nguAllah, nobuhlakani kanye nobuProfethi athi: «Yibani izinceku zami esikhundleni sika-Allah»; kunalokho uye athi: «Yibani yizinceku ezi-thembekile zeNkosi, ngokuzimisela ukufundisa iNcwadi, nangokuyifunda ngokuthembeka».

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْكِتَابَ  
وَالْحُكْمَ وَالنِّبَيَّةَ نُهُمْ يَقُولُونَ لِلَّهِ أَنْ كُوْنُوا  
عِبَادًا لِيَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُوْنُوا  
رَبِّيْنِ يَمْكُنُ لَهُمْ تَعْلِمُونَ الْكِتَابَ  
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ⑦

**80.** Angeze futhi aniyaleza ukuthi nithathe izingelosi, kanye nabaProfethi njengamaKhosi nabameli. Anganiguqulela yini ebubqabeni ngemuva kokuba senizinikele na? (ningamaMuslim).

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَسْجُدُوا إِلَيَّنِكَةَ  
وَالشَّيْطَنَ أَرْبَابًا إِذَا يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ  
بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ⑧

### ISIGABA9.

**81.** Bheka! Mhlazane uAllah enza isivumelwano nabaProfethi (ethi): «Ngininika iNcwadi kanye nobuhlakani, ngemuva kwalokhu kuzofika kinina isiThunywa esi-

وَإِذَا حَدَّ اللَّهُ مِنْكَافَ الشَّيْطَنَ لَهَا  
أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةً نُهُمْ جَاءُكُمْ  
رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ

zogcwalisa lokho eninakho. Nize nisikholve futhi nisisize. (UAllah) wathi: «Niyavuma ukuthwala lesivumelwano nje ngesiphoekekile kinina na?» (AbaProfethi) bathi: «Siyasemukela». (UAllah) Wathi: «Yibani ngofakazi, naMi futhi Ngizoba ngomunye wofakazi»<sup>[1]</sup>.

**82.** Uma behlehlala ngemuva kwalokhu, labo-ke abaphambukile.

**83.** Bafuna enye inkolo ngaphandle kwekaAllah, kanti zonke izidalwa ezesemazulwini, na-semhabeni ziMthobela zithanda noma zingathandi? Futhi isiphetho ukubuyela kuYe.

**84.** Yithi: «Siyakholwa kuAllah, nakulokho esambulelwa kona, nokwembulelwa uAbrahama, noIs-hmayeli, noIsaka, noJakobe, kanye nasezizweni, nalokho ok-wembulelwa uMose, noJesu kanye nabaProfethi kuvela eNkosini yabo. Asibandlululi noyedwa phakathi kwabo, futhi sizinikela kuYena (uAllah)».

**85.** Uma kukhona ofuna enye inkolo ngaphandle kweIslam

يَهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَبْنَاهُمْ وَأَخْذُنَّهُمْ  
عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِنِي قَالُوا أَقْرَبْنَاكَ قَالَ  
فَأَشْهُدُهُ وَأَنَّا مَعْلُومٌ مِّنَ الشَّهِيدِينَ ﴿٤﴾

فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْفَسِقُونَ ﴿٥﴾

أَفَغَيْرِ رَبِّنَا اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ  
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا  
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٦﴾

كُلُّ أَمْلَاكِ اللَّهِ وَمَا أُنْزَلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزَلَ  
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ  
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُنْزِلَ مُوسَى  
وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا يُنَزَّقُونَ  
بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَمَنْ حَنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٧﴾

وَمَنْ يَتَّبِعْ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دُرْبًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

[1] UmProfethi wokugcina okukhulunyuwa ngaye nguMuhammad (uku-thula kube kuye), kwawacacela amanye amaJuda kanye namaKrestu ayesedolobheni laseMadina, ayesemlandela. Labo abaphikisayo bayax-wayiswa emavesini alandelayo.

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الظَّاهِرِينَ ﴿٦﴾

(ukuzinikela kuAllah), ingeze yemukelwa kuyena; futhi kweLizayo uzoba kanye nalabo abalahlekelwayo.

**86.** Angabahola kanjani uAllah labo abaphika ukholo ngemuva kokulamukela, futhi sebafakaza ukuthi isiThunywa eseqiniso, nezimpawu zisobala kubona na? Ngempela uAllah Akabaholi abantu abedukayo.

**87.** Umvuzo wabo uzoba yisiqalekiso sikaAllah, futhi nesezingelosi zaKhe, kanye nesabantu bonke.

**88.** Bazophila kusona: futhi isigwebo sabo asizuncishiswa, nesikhathi sokuphenduka abazunikwa.

**89.** Ngaphandle kwalabo abaphendukayo, ngemuva kwalokho balungise abakonile; ngempela uAllah Uyatethelela Unomusa.

**90.** Kepha labo abalahla inkolo ngemuva kokuyamukela, bequhubeka nokuyiphika, akusoze kwe mukeleka ukuphenduka kwabo. Labo-ke abedukileyo.

**91.** Ngempela labo abangakholwa, futhi baze baficwe ukufa bengakholwa, akusoze kwemuke-

كُلُّ يَهُودِيٍّ إِنَّهُ قَوْمٌ كُفَّارٌ وَّابْعَدَهُمْ  
إِيمَانُهُمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ  
وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنُتُ وَاللَّهُ لَا يَهُودِيَّ قَوْمٌ  
الظَّلِيلِيْنَ ﴿٧﴾

أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ  
وَالْبَلِيلَةُ وَالثَّالِثُ أَجْمَعِينَ ﴿٨﴾

خَلِدِيْنَ فِيهَا لَا يُغَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ  
وَلَا هُمْ يَظْرُونَ ﴿٩﴾

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ أَبْعَدِ ذَلِكَ  
وَاصْكُحُوا سَقَرَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَبْعَدَ إِيمَانَهُمْ ثُمَّ  
أَذْدَادُوا كُفَّارًا نُّقَبَّلَ تَوْتِهِمْ وَأُولَئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُؤْمِنُوا وَهُمْ لَفَارٌ  
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ هُمْ مُّمْلُءُ



leka konjalo, noma igolide lonke elisemhlaben i lingalethwa nje ngesinxephezel. Labo-ke ba zohlan-gabezana nesijeziso esibuhlungu, futhi abazukuba nabasizi.

### ISIGABA10.

**92.** Anisoze nifinyelele ekulungeni, noze ninikele ngalokho enikuthandayo, noma yini eninikela ngayo, ngempela uAllah Uyazi kahle.

**93.** Konke ukudla kwakuvume-lekile kubantwana baka Israyeli, ngaphandle kwalokho azinqumela yena uIsrayeli ukuthi akuvume-lekile, ungakembulwa umthetho (kuMose). Yithi: «Lethani iTorah (umthetho) niyifunde uma ningabantu beqiniso»<sup>[1]</sup>.

**94.** Uma kukhona ngemuva kwalokhu abazoqamba amanga ngoAllah, yibona-ke abayizoni.

**95.** Yithi: «UAllah ukhuluma iqiniso, ngakho-ke landelani in-kolo kaAbraham owayelungile; futhi wayengesiyena okanye naba-khonza izithixo».

الْأَرْضُ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ  
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ  
مِّنْ نُصُبِّرُنَّ ④

لَنْ تَنَالُوا إِلَيْهِ حَتَّى تُنْفَقُوا مِمَّا  
يَحْبُّونَ هُوَ أَنْتُنْ فَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
عَلَيْهِ عِلْمٌ ④

كُلُّ الظَّعَامِ كَانَ حِلًا لِلَّبَنِ إِسْرَائِيلَ  
إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تُنَزَّلَ التُّورَةُ قُلْ فَلَمْ يَأْتِ بِالْتُّورَةِ  
فَأَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ④

فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ مِنْ بَعْدِ  
ذَلِكَ قَوْلِكَ هُوَ الظَّالِمُونَ ④

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا لَمَّا أَرْتُهُمْ  
حَيْنِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الشَّرِكِينَ ④

[1] Abakwa Israyeli abawudli umsipha wenqulu esesikhoxeni senyonga. Gen. 32:32. Okunye kwenqatshelwa ngu Nkulunkulu ngomthetho kuMose.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي يُبَكِّهُ  
مُدِرِّجًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ①

فِيهِ أَيْتَتْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ  
كَانَ أَمْنًا وَلَمْ يَهُ عَلَى النَّاسِ حِجْرُ الْبَيْتِ  
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ  
اللَّهَ عَنِّي ② عَنِ الْعَلَمِينَ ③

**96.** Indlu yokuqala (yomkhuleko) eyamiselwa isintu yileyo eseBakka (Makkah), egcwele izibusiso kanye nenkokhelo yezidalwa zonke.

**97.** Kuyona kunezimpawu ezcacile, njengendawo okwamisa kuyo uAbraham, lowo ongena kuyo uthola ukuvikeleka; ukuvakashela kulendlu kuwumsebenzi isintu esiwenzela uAllah, kulabo abanokuba namandla okumela lolohambo, kepha uma kunabaphika ukholo, ngempela uAllah Akazincengi izidalwa zaKhe.

**98.** Yithi: «O, bantu beNcwadi! Kungani ningakholwa yimbikoka-Allah, kanti uAllah Ungufakazi wakho konke enikwenzayo na?»

**99.** Yithi: «O, bantu beNcwadi! Kungani nithikameza labo abakholyo endleleni kaAllah, nizama ukuyigwegwisa, kanti nina uqobo naningofakazi (niholwa nguAllah) na? Ngempela akusikona ukuthi uAllah Akakunakile lokho enikwenzayo».

**100.** O, nina enikholyo! Uma ningase nilalele inxenyel yalabo bantu beNcwadi, bazonenza nihlamuke ukholo, ngemuva kokuba senikholiwe.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَكُفُّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ  
وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا عَمَلُوكُمْ ④

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تَصْدُرُونَ عَنْ سَيِّئِ  
الَّذِي وَمَنْ أَمَّنَ بِعْنَاهُ أَعْوَجًا وَأَنْتُ شَهِيدٌ  
وَمَا أَنْتُ بِقَادِلٍ عَنْ مَا تَعْمَلُونَ ⑤

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تُبَيِّنُوا فِرْقَةً  
مِنَ الَّذِينَ أُفْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّونَ كُمْ بَعْدَ  
إِيمَانِكُمْ كُفَّارٌ ⑥

**101.** Ningaluhlamuka kanjani ukholo, njengoba yethulwa kinina imibiko kaAllah, kanye nesiThunywa siphambi kwenu na? Ngempela lowo obambelele kuAllah, uzoholelewa endleleni eqondile.

### ISIGABA11.

**102.** O, nina enikhholwayo! Yesabani uAllah ngeqiniso njen-goba kumele Esatshwe, futhi ningaficwa ukufa ningesiwona amaMuslim (abathobele uAllah).

**103.** Bambelelani ndawonye nonke, endophini kaAllah ninga-qembukelani; futhi nikhumbule ngokubonga umusa kaAllah kini-na, ngokuba naniyizitha Wahlanganisa izinhlizyo zenu ngothando, kwathi ngomusa waKhe naba ngabazalwane; futhi nanisogebeni lomgodi womlilo. Wayesenihlenga kuwo. Ngalendlela uAllah Ucacissa izambulo zaKhe kinina ukuze nithole ukuholwa.

**104.** Futhi makusukume idlanzi labantu emphakathini wenu, elizomemela abanye kokuhle, liyale ngokulunga, lenqabele ububi: ngempela labo bazophumelela.

**105.** Ningabi njengalabo abaq-hekekayo, futhi bephikisana nge-muva kokwamukela izimpawu ezicacile. Ngempela labo-ke

وَكَيْفَ تَلْفَرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلِي عَلَيْكُمُ الْآيَتُ  
اللَّهُ وَفِيهِ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ فَقَدْ  
هُدِيَ إِلَى صَرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ<sup>١٠</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الظُّفَرُ لِلَّهِ حَقٌّ لِّفِتَّاحِ  
وَلَا تَنْتَهُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ<sup>١١</sup>

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَبِيعًا وَلَا تَنْقُضُوهُ  
وَإِذْ كُرِّزَ عَمَّا نَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْنَدُهُ  
فَأَلَقَنَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَاصِدَتْمُ بِنَعْمَتِهِ إِنْوَانًا  
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُكْمٍ فَمِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ  
مِّنْهَا كَذَنْ لَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَةَ لَعَلَّكُمْ  
تَهْتَدُونَ<sup>١٢</sup>

وَلَنْ تَكُنْ مِّنَ الْمُمْكِنَةِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ  
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ<sup>١٣</sup>

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقْرَئُونَ وَأَخْتَافُونَ مِنْ  
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنُ<sup>١٤</sup>

(abanjalo) bamelwe yisijeziso esinzima.

**106.** NgoSuku (lokuvuka) ubuso buzokwenziwa mhlophe<sup>[1]</sup>, kuthi obunye benziwe mnyama. Kulabo ubuso babo obuzokwenziwa mnyama kuzothiwa kubona: «Nahlamuka inkolo nge-muva kokuyamukela na? Yizwani isijeziso, ngokuba naphika ukholo».

**107.** Ngempela labo ubuso babo obuyokwenziwa mhlophe, bayokuba semseni kaAllah; baphile kuwo (ngonaphakade).

**108.** Lezi yizimpawu zikaAllah, eSikulandisa zona ngeqiniso: futhi uAllah Akaqondile ukuphatha izidalwa zaKhe ngokungemthetho.

**109.** Ngempela kungokukaAllah konke okusemazulwini nokusemhlaben, yikuAllah lapho zonke izindaba ziyophetha khona.

### ISIGABA12.

**110.** Niwumphakathi omuhle ngokwedlulele, ophakanyiselwe isintu, niyala ngokuhle, nenqabela

وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهاً سَوَاءً وُجُوهاً فَإِنَّمَا  
الَّذِينَ أَسْوَدُتْ وُجُوهُهُمْ أَلْفَرَ تُحْبَطُ  
إِيمَانُكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتمُ  
تَكْفُرُونَ

وَأَنَّا الَّذِينَ ابْيَضْنَا وُجُوهُنَا فَقُنْدَرَحْمَةٌ  
اللَّهُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

تَلْكَ أَيُّهُ اللَّهُ نَسْتَلُو هَا عَلَيْكَ  
بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ لُلَّمَّا لِلْعَلَمِينَ

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
وَإِلَّا اللَّهُ شُرَجْعُ الْأُمُورِ

كُنْتُمْ حَيْرَانَةً أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ

[1] Bayogqama, noma bayokhazimuliswa.

ububi, futhi nikholwa kuAllah. Ngempela uma abantu beNcwadi bebekholiwe, bekuzoba ngcono kubona. Phakathi kwabo kunalabu abanokholo, kepha iningi lingabephuli bomthetho<sup>[1]</sup>.

**111.** Abasoze babayingozi kinya, kuphela bazonicunula nje, uma bengase banilwise bazo-phenduka babaleke, futhi abanakuthola sizo.

**112.** Usizi luphezu kwabo, noma yikuphi lapho bekhona, ngaphandle uma besesivumelwanni esisuka kuAllah nakubantu; bazihehela isijeziso esivela kuAllah, amashwa abongamele, lokhu kudalwa ukugakhola yimibiko kaAllah, futhi babulala nabaProfethi ngokungemthetho. Lokhu kungenxa yokuba bahlubuka, futhi bona kakhulu.

**113.** Abefani bonke abantu beNcwadi, kunenxeny ezmisele ngokufunda imibiko kaAllah ngezikhathi zasebusuku futhi bewa ngobuso beMdumisa.

**114.** Bakholwa kuAllah naso-Sukwini lokugcina, bayala ngoku-lunga benqaba okungalungile, futhi baphakamela phezulu ek-

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَّا أَهْلُ  
الْكِتَابِ لَهُنَّ أَحَدًا مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ  
وَالَّذِينَ فَسِقُوا

لَنْ يَئُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَىٰ وَإِنْ يَقَاوِلُوكُمْ  
يُوْلُوْكُمْ الْأَدْبَارَ شَكُّ لَا يُصَرُّونَ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَةُ أَيْنَ مَا نَفَعُوهُ  
إِلَّا بَخِيلٍ مِّنَ اللَّهِ وَجَهِيلٍ مِّنَ التَّائِسِ  
وَبَاءَهُ وِعْدٌ ضَيْبٌ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ  
الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ يَا أَيُّهُمْ كَانُوا يَكْفَرُونَ  
بِالْآيَاتِ الَّتِي وَيَقُولُونَ الْأَيْنِيَّا بَعْرِيقٌ  
ذَلِكَ بِمَا عَصَمُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْ هُمْ  
قَائِمَةٌ يُتَشَوَّنَ إِلَيْهِ اللَّهُ أَنَّهُ أَلَّا يُرِي  
وَهُمْ يَسْجُدُونَ

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ

[1] Umphakathi wabazithobayo (Muslim) ubuziphethe kahle unconnywa ngisho nawuMdali, futhi Ewuhlenga ezintweni ezimbi.

wenzeni imisebenzi emihle. Ngempela labo abasohleni lwabalungileyo.

**115.** Futhi kulokho okuhle abakwenzayo, akusoze kwa-thathwa njengeze, futhi uAllah uyabazi labo abagwema ububi.

**116.** Kulabo abaphika ukholo, kungaba ubucebi babo kanye nozalo lwabo, akuzubasiza sebe bhekene noAllah. Labo-ke ngempela abangane bomlilo, bayophila kuwo (phakade).

**117.** Lokho abanikela ngakho kulempilo yakulomhlaba kufaniswa nomoya wesithwathwa, oheleza ubhubhise isivuno sabantu abazonele bona ngokwabo; aku-siYena uAllah obonelayo, kepha bazonela bona uqobo.

**118.** O, nina enikhholwayo! Ningabazisi kakhlulu abanye ngaphandle kwalabo abasenkolweni yenu: bangeze bayeka ukunididisa, futhi bafisa ukuthi nibhuntshe. Sebeze baphimisela elenzondo ngemilomo yabo, kepha abaku-fihle ezinhliziyweni zabo kukhulu. Siwucacisile umbiko kinina uma ningabaqondayo.

**119.** Bheka nina niyabathanda, kanti bona abanithandi, nibe nikholwa eNcwadini iyonke. Uma

الْمُنَذِّرُ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِ  
وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ<sup>(١٥)</sup>

وَمَا يَعْلَمُ أَهْلُكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكَفِّرُوهُ  
وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمُتَّقِينَ<sup>(١٦)</sup>

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ  
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ  
وَأُولَئِكَ أَمَّا حُبُّ التَّارِيْخِ فِيهَا  
خَلِدُونَ<sup>(١٧)</sup>

مَثِيلُ مَا يَنْفَعُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
لَمْ يَشْرِكُوهُمْ فِيهَا حَرَّاصَاتٌ حَرَثُ قَوْمٍ  
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتُهُ وَمَا  
كَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ<sup>(١٨)</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا إِبَطَاهَةَ مَنْ  
دُونَكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَاءً دُونَهُ وَمَا عَنْتُمْ  
قَدْ بَدَأْتُ الْبَعْضَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَعْنَى  
صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَتُ لَكُمُ الْآيَتِ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ<sup>(١٩)</sup>

هَأَنْتُمْ أَوَلَاءُ تَحْسُنَهُمْ وَلَا يُجْنِبُونَكُمْ



bekanye nani bathi: «Siyakholwa, kepha uma sebebodya baququda izinziphlo ngenxa yentukuthelo. Yithi: «Felani olakeni lweni». Ngempela uAllah Uzazikahle izimfihlo zesifuba.

**120.** Uma ngenhlanhla nehlelwa okuhle, kubakubi kubona, kepha uma nehlelwa amashwa bayakuthokozela lokho. Ngempela uma nibekelza futhi nesaba uAllah, abusoze nakancane bayingozi ubuqili babo. Ngempela uAllah Ukake konke abakwenzayo.

### ISIGABA13.

**121.** Futhi khumbula mhlazane ushiya umndeni wakho entathakusa, uyohlela umbutho wamakholwa ngezigaba zazo elungiselela impi. Ngempela uAllah Uyezwa, Wazi konke<sup>[1]</sup>.

**122.** Khumbula amaqembu enu amabili ekhombisa ukuphelelwa yithemba, kepha uAllah Waba nguMvikeli noMngane wawo. Ngempela yikuAllah lapho ithemba lamakholwa likhona<sup>[2]</sup>.

[1] UmProfethi lapha wayevivela impi yase-Uhud.

[2] U-Abdullah Ubay umzenzisi owayengumJuda, washiya inkudla yempi wahamba nebutho lakhe elalinamadoda angu 200. Lokho kwabangela amaMuslim ezizwe ezimbili, abakwa Banu Salama nabakwa Banu Harith baphelelwa yithemba. Funda uvesi 155.

وَتَوْمُونُونَ يَا لِكْتَبِهِ كُلُّهُ وَإِذَا الْقَوْمُ قَاتُلُوا  
أَمْنًاٰ وَإِذَا أَخْلَوْا عَصْوَاعَنِيكُمُ الْأَكَامِلُ  
مِنَ الْغَيْظِ فَلْ مُؤْتُوا بِعَيْظَلُكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَلَيْهِ بِدَارِ الصَّدُورِ<sup>(١)</sup>

إِنَّ لَكُمْ سُكُونٌ حَسَنَةٌ سُوْهُمْ وَلَنْ  
تُضْبِكُمْ سَيِّئَةٌ يَهْرُو بِهَا وَلَنْ تَصِرُّفُوا  
وَتَتَّقُوا إِلَيْهِرُكُمْ كَيْدُ هُرْشِيَّا إِنَّ  
اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ<sup>(٢)</sup>

وَإِذْ دَعَوْتَ مِنْ أَهْمَلَكَ تُبُوَّيِّ  
الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْمُقْتَلِ وَلَنْ  
سَيِّئَعَ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>

إِذْ هَبَتْ تَلَاقِتَنِ مِنْهُمْ أَنْ  
تَفَشِّلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى  
اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ<sup>(٤)</sup>

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِيَدِ رَبِّكُمْ أَذْلَّهُ  
فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ شَكُورُونَ ﴿٧﴾

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَكُنْ يَكِنُّكُمْ أَنَّ  
يُمَدِّكُمْ بِرِبِّكُمْ بِشَكْلَةِ الْفِي مِنْ  
الْمَلِكَةِ مُذَلَّلِينَ ﴿٨﴾

بَلْ إِنْ تَصِيرُوا وَتَتَقَوَّى يَا تُوْكِعُونَ  
فَوَرَهُمْ هُنَّا إِنْ يَدْرِكُهُمْ بِمَكْسَةٍ  
الْفِي مِنْ الْمَلِكَةِ مُسْوِيُّونَ ﴿٩﴾

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلَنَطْمِئْنَ  
ثُلُوكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٠﴾

لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَوْيَبَتْهُمْ  
فَيَنْقِلِبُو خَابِيْنَ ﴿١١﴾

لَيْسَ لَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ  
أَوْ يُعْلَمُ بِهِمْ فِي هُنْمَ ظَلَمُونَ ﴿١٢﴾

وَلَلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

**123.** Futhi uAllah Wenza ukuthi ninqobe eBadri, lapho naniyi-sigejana; ngakho-ke yesabani uAllah nikhombise ngalokho ukubonga.

**124.** Khumbula mhlazane uthi kulabo abakhholwayo: «Akwenele yini kinina uma iNkosi yenu Ithumela phansi izinkulungwane ezinthathu zezingelosi ukuzonisiza na?»

**125.** Imbala! Uma niqinisela, nigwema ububi, noma ngabe ninokuhlaselwa manje ningazelele, iNkosi yenu izothumela usizo lwezinkulungwane ezinhlanu zezingelosi zibashanele.

**126.** Ngempela uAllah uhlose ukuthi lokhu kube umbiko wenduduzo kinina, kanye nesiqiniseko ezinhliziyweni zenu, futhi akukho sizo ngaphandle kulosuka kuAllah Onamandla, Ohlakaniphile.

**127.** Ukuze Anqume inxenyenyalabo abangakholwa, noma Abavimbele ukuze basale bedidekile.

**128.** Akusona esakho isinqumo, sokuthi (uAllah) Uphendukela kubona ngomusa noma Uyabajezisa; ngoba bayizoni.

**129.** Futhi okukaAllah konke okusemazulwini nasemhlabeni,

Uthethelela lowo Amthandileyo, futhi Ajezise lowo Athande ukumjezisa. Ngempela uAllah Uyathethelala Unomua.

### ISIGABA14.

**130.** O, nina enikholwayo! Ningabizi inzalo emalini enibolekisa ngayo, niyandisa ngokuphinda phindiwe; futhi nesabe uAllah ukuze niphumelele.

**131.** Ngempela nesabe umlilo lungiselelwe labo abangakholwa.

**132.** Ngempela nilalele uAllah nesiThunywa, ukuze nizuze umusa.

**133.** Ncintisanani nilibangise entethelelweni evela eNkosini yenu, kanye nasesivanden (kwe-Lizayo) esibanzi kuhle kwamazulu kanye nomhlaba, esilungiselelwe labo abagwema ububi.

**134.** Labo futhi abanikelayo, kungaba sesikhathini sempumelelo noma sobunzima, abazibambayo ekuhluthukeni, batethethelabanye, ngempela uAllah Uthanda abenza ukulunga.

**135.** Futhi labo abenza izinto ezijabhisayo noma ezephula imiphefumulo yabo, bakhumbule uAllah, besebecela intethelelo ngokona kwabo, ubani on-

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُلُوا الرِّبَآءَ  
أَضْعَافًا مُضْعَفَةً تَوَافَّتُوهُ اللَّهُ  
لَعَلَّكُمْ تُفَلِّحُونَ

وَأَنْقُوا النَّارَ الَّتِي أَعْدَتْ لِلْكُفَّارِ

وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَمَنْ رَّجَعَ  
وَجَنَّهُ عَوْضُهُمَا السَّلَوْتُ وَالْأَرْضُ  
أَعْدَتْ لِلنَّاسِ

الَّذِينَ يُنْفَقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالثَّرَاءِ  
وَالْكَظِيمُونَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ  
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

وَالَّذِينَ إِذَا قَاتَلُوا فَإِلَيْهِمْ أَوْكَلْمُوا  
أَنْفُسُهُمْ ذَكْرُ اللَّهِ فَأَسْعَفُرُوا  
لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

gathethelela izono ngaphandle kukaAllah na? Futhi bengeke baphinde benze sebenolwazi lokho asebakwenza.

**136.** Umvuzo walabo, uzoba yintethelelo eNkosini yabo, kanye nezivande ezigobhoza imifula ngaphansi, okuyindawo yabo yokuphila phakade, muhle ngempela umvuzo walabo abasebenzayo.

**137.** Maningi amasiko asadlula ngaphambi kwenu, ngakho-ke hambelani emazweni ukuze nibone okwaba wumphumela walabo ababephika iqiniso.

**138.** Nasi isimemezelo esintwini, izeluleko kanye nezixwayiso kulabu abagwema ububi.

**139.** Impela ningadikibali futhi ningakhali, ngokuba nizonqoba uma nikholiwe.

**140.** Uma nthole inxeba, nala-bo bantu bathola inxeba ngokufanayo. Lezi yizinguquko eSenza ukuthi zidedelane kubantu, ukuze uAllah Azi labo abakholwayo Akhethe ofakazi (abafela ukholo) phakathi kwenu; futhi uAllah Akabathandi abanayo<sup>[1]</sup>.

إِلَّا إِنَّهُ لَمْ يُصُرُّ وَاعْلَى مَا فَعَلُوا  
وَهُمْ يَعْلَمُونَ

أُولَئِكَ جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ  
وَجَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَعْبِتِهِ الْأَنْهَرُ خَلِيلُينَ  
فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَبْدِينَ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سَنَنٌ فَسِيرُوا  
فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

هُنَّا بَيْانٌ لِلْكَافِرِ وَهُدَى  
وَمُوعِظَةٌ لِلنَّاسِ

وَلَا تَهْنُو أَلَا حَزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْنَوْنَ  
إِنْ كُنُتمُ مُؤْمِنِينَ

إِنْ يَسْسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ  
قَرْحٌ مُمْثِلٌ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَا وَلَهَا  
بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
وَيَتَخَذَ مِنْكُمْ شَهَادَةً وَاللَّهُ  
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

[1] UAllah Wayeduza ama Muslim ngemuva kokudumazeka kwawo empini yase Uhud. Ama Muslim ehlulwa kulempi kanti anqoba kweyokuqala eyayiseBadr.

**141.** Ngakho-ke uAllah Uhlose ukuhlanza labo abakholwayo, abhubhise labo abaphika ukholo.

**142.** Kambe nicabanga ukuthi nizongena ejannat (paradesi) ngaphandle kolwazi lukaAllah ngalabo abazabalaza kanzxima phakathi kwenu, noma ngokwazi ngalabo ababekezelayo na?

**143.** Futhi nanike nifise ukufa ngaphambi kokuhlangabezana nakhko (enkundleni yempi), manje senikubona ngamehlo enu<sup>[1]</sup>.

### ISIGABA 15.

**144.** Ngempela uMuhammad uyisiThunywa nje kuphela, futhi ziningi iziThunywa eseza dlula esikhathini esiphambili. Kungenzeka yini ukuthi uma efa noma ebulewe, nifulathele na?<sup>[2]</sup> Uma kukhona ofulathelayo, lokho aku zuMhlupha uAllah futhi uAllah Uzoklomelisa labo ababongayo.

**145.** Futhi akuna mphefumulo ongaphuma ngaphandle kwemvume kaAllah nangesikhathi esimisiwe. Kulowo othanda umvuzo

[1] AmaMuslim ayeze ngomkhulu umfutho ezimisele ngokunqoba, athe neka amandla negenxa yokwephula kwawo iziyalo. Funda uvesi 152-155.

[2] Kulempu umProfethi walimala, kwase kwanda amahlebezi okuthi ufile; uAllah Wayesembhula lamavesi.

وَلِيُعْلَمَ حَصَنُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا  
وَلِيَعَلَمَ الْكُفَّارُ ⑨

أَمْ حَسِبُوهُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَا  
يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ  
وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ⑩

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَهْوَى النُّوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١١

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقَ مِنْ  
مَّبْلِهِ الرَّسُولُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ  
أَنْقَلَبُتُمْ عَلَى أَعْقَالِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ  
عَلَى عَقِبَيْهِ فَأَنْ يَقْرَأَ اللَّهُ شَيْئًا  
وَسَيَجِزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ⑪

وَمَا كَانَ لِنَفِيسٍ أَنْ تَهُوْتَ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ  
كَتَبَ أَمْوَالًا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

wakulelizwe, Sizomnika, futhi nallowo othanda umvuzo wakweLizayo naye Sizomnika. Sizonika umvuzo (wangempela) labo ababongayo.

نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُبْرُدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ  
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّكِيرِينَ ⑩

**146.** Bangaki abaProfethi belwa bekanye nabantu abaningi abathembekile na? Abazange baphelelwe yithemba ngokwehlelwa yingozi besendleleni kaAllah, futhi abaphelelwanga yithemba kanye nomfutho, ngempela uAllah Uthanda labo ababekezelayo.

وَكَيْنَ مِنْ تَيْيَىٰ قُتِلَ لِمَعَهُ رِبِّيُّونَ  
كَثِيرٌ فِيمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُ فِي  
سَيِّئِ اللَّهُ وَمَا أَضَعُفُوا وَمَا أُسْتَكِنُوا  
وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ⑪

**147.** Ngempela abashongo lutho ngaphandle kokuthi: «Nkosi yethu! Sithethelele izono zethu, nangezenzo zethu eziyize, Wenze namanyathelo ethu aqine, futhi Usisize ukubhekana nabantu abangakholwa.

وَمَا كَانَ قُولَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا  
أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي  
أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصَرَنَا  
عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ⑫

**148.** Ngalokho uAllah Wabapha umvuzo wakulomhlaba, kanye nomvuzo omuhle wakweLizayo, ngempela uAllah Uthanda labo abenza akuhle.

فَاتَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا  
وَحُسْنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ  
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⑬

### ISIGABA16.

**149.** O, nina enikholwayo! Uma nilalela labo abangakholwa, bazokwenza ukuba nihlehlle nyova, bese niphenduka abalahlekelwayo.

يَا يَاهَا الَّذِينَ امْنَوْا إِنْ تُطْبِعُوا  
الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِرْدُ فُكُمْ عَلَى آعْقَابِكُمْ  
فَتَنَقْلِبُوا خَسِرِينَ ⑭

بِلِ اللَّهِ مُولَّكُمْ وَهُوَ خَيْرُ  
الظَّاهِرِينَ ⑤

سَنُنَلِّقُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ  
بِمَا أَشْرَكُوا يَأْتِهِم مَا لَمْ يُنَزَّلُ إِلَيْهِ  
سُلْطَانًا وَمَا وُهُم بِالثَّاذُورِ بِسْ  
مَثْوَى الظَّالِمِينَ ⑥

وَلَقَدْ صَدَقُوكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ أَذْ  
تَحْسُونَهُمْ يَأْذِنُهُ حَتَّىٰ إِذَا فَيَشْلُمُ  
وَتَنَازَّعُهُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ  
بَعْدِ مَا أَرْسَلْتُكُمْ مَا تَحْمِلُونَ مِنْكُمْ مَّنْ  
يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ  
الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفْتُكُمْ عَنْهُمْ  
لِيَسْتَلِيهِمْ وَلَقَدْ عَفَّا عَنْكُمْ وَاللَّهُ  
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ⑦

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ  
وَالرَّسُولُ يَدْعُكُمْ فِي آخِرِكُمْ  
فَإِذَا بَكُمْ غَمَّا إِعْجِزُكُمْ لَيْلًا تَحْزَنُوا

**150.** Kanti uAllah UnguMhlengi wenu kanye noMsizi Obed-lula bonke.

**151.** Sizofaka uvalo ezinhliziyeweni zalabo abangakholwa, ngoba bahangqa uAllah nezithixo, okuyinto engavunyelwe uYena; futhi indawo yabo izoba semlil-weni. Ngempela yimbi indawo yabonayo.

**152.** Impela uAllah Wasifeza isethembiso Asenza kinina, okwathi lapho seniziqothula izitha zenu ngemvume yaKhe, kwayilapho nithikamezeka, futhi niphikisana mayelana neziyalo, nangalalei ngemuva kokuba Anibonise (umphango) lowo enaniwulangazelele. Abanye benu babefuna okomhlaba, kanti abanye babelangazelele eLizayo, ngalokho Wanenza ukuthi ningazinaki izitha zenu ukuze Anivivinye. Manje Usenithethelele, futhi umusa kaAllah wengamele labo abakholwayo.

**153.** Bheka! Ngesikhathi nikhu-phuka (eqgumeni) ningasanake ngisho noyedwa, nesiThunywa singemuva kwenu sinikuza (ukuthi nibuye)<sup>[1]</sup>. UAllah Waye-

[1] UmProfethi wayeyale abemicibisholo ukuthi balinde bangehleli phansi kodwa kwathi sebebona kungathi sebeyayinqoba impi, behla bejahe umphango. Izitha kanti ezinye zijikele ngemuva kwentaba yase Uhud, zase zibaqhamukela ngemuva bengalindele, behlulwa.

عَلَىٰ مَا فَاعَلُكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ  
وَاللّهُ حَيْرُ بِمَا تَعْمَلُونَ

senipha umvuzo wosizi phezu kolunye usizi, Enzela ukuthi ningabe nisakhalela lokho okwanaphunyukayo kanye nokunehla-kalele. Ngempela uAllah Ukwazi kahle konke enikewenzayo.

**154.** Kwathi ngemuva kosizi Wehlisela ukuphepha kwabanye baze bafikelwa nawubuthongo, kwathi elinye iqembu kinina lacabanga okubi ngoAllah, okuyimidlino yokungazi. Lathi: «Besiphatheleni yini thina naloludabana?» Yithi: «Ngempela loludaba ngokuphelele olukaAllah». Bafihle imidlino abangeke bakutshela yona, bathi. «Ukube besiphatheleni naloludaba besingeke sibulawe (kanjena) lapha». Yithi: «Noma ngabe benisemakhaya enu, labo ukufa ebese kubafanele bebeyosuka baye lapho kuyobafica khona, kepha konke lokhu bekuyisivivinyo sikaAllah, ngalokho okusezifubeni zenu, nokuthi Ahlanze izinhliziyozenu. Ngempela uAllah Wazi zonke izimfihlo zesifuba.

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغُمَّةِ آمِنَةً لَعَسْلًا  
يَغْشِي طَرِيقَةً مِنْهُ وَطَرِيقَةً قَدَّا هَتَّهُمْ  
أَنْفُسُهُمْ يَطْبَوُنَ بِاللّهِ عَيْرَ الْحَقِّ كُلَّنَّ  
الْجَاهِلِيَّةَ يَتَوَلَّنَ هُنَّ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مَنْ  
شَرِفَ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِلِلّهِ يُحْكَمُ فَرَّ  
أَفْسَهُمْ تَالَّا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ تَوْكِّانَ  
لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ تَأْفِلُنَا هُنَّا قُلْ لَوْلَمْ نَفِ  
بِيُوتُكُمْ لَيْرَالَذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقُتْلُ إِلَى  
مَضَاجِعِهِمْ وَلَيُبَتِّلَ اللّهُ مَا قَرِبَ صُدُورُكُمْ  
وَلَيُبَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلَيْمٌ  
بِذَاتِ الصُّدُورِ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يُوَمَّ النُّقْبَى أَجَمِعُنَّ  
إِنَّمَا أَسْتَرْلُهُمُ الشَّيْطَانُ بِعَضِ مَا كَسَبُوا  
وَلَقَدْ عَفَ اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ

**155.** Futhi labo ababaleka phakathi kwenu ngosuku okwatholana ngalo phezulu amqembu womibili, benziwa usathane ukuba babaleke, ngenxa yalobobui

ababenza. UAllah Usebaxolele  
manje ngoba uAllah Uyathethela-  
la, Uyabekezelā<sup>[1]</sup>.

غفور حليم

ISIGABA17.

156. O, nina enikholwayo!  
Ningabi njengalabo abanga-kholwa, okuthi uma abafowabo behambele kwamanye amazwe noma besempini, bona bathi: «Ukuba bebehleli kanye nathi bebengeke baficwe ukufa, noma babulawe». Ngalokho-nje UAllah Angabehlisela ukukhala kanye nokuzisola ezinhliziyweni zabo, futhi nguAllah Odale impilo kanye nokufa, ngempela uAllah Ubona kahle konke enikwenzavo.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْتُنُوا إِلَيْكُمْ وَأَنَّ لَهُمْ مُّهَاجِرًا  
وَقَاتُلُوا إِلَيْكُمْ هُدًى إِذَا أَضَرْبُوا فِي الْأَرْضِ  
أَوْ كَانُوا غُزَّارًا كُونُوكَانُوا عِنْدَنَا مَامَاتُوا  
وَمَا قَاتَلُوكُلَّا يَجْعَلَ اللَّهُ ذُلِكَ حَسْرَةً فِي  
قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ وَيُبْشِّرُ وَاللَّهُ بِهَا  
تَعَمَّلُونَ بَصِيرٌ

**157.** Kunani uma nibulewe  
noma nifele emsebenzini kaAllah  
na? Ngoba ngempela intethelelo  
kakhulu kunakho konke abaku-  
qongeleyayo.

**158.** Bekunani uma nibulewe noma nifile na, njengoba nizoqo-qelwa kuAllah nonke?

**159.** Kungenxa yomusa kaAllah ukuthi ube nokubabekezelela, (Muhammad), kanti ukuba ubunolunya kanye nobudlova, bebe-zohlakazeka bahambele kude

وَلَئِنْ قُتِّلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مِنْهُ  
لَعْفَرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيرٌ مِنَهَا

**وَلَيْسُ مُتّمٌ أَوْ قُتْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَنَحْنُ**

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَّمَّا هُوَ أَوْلَى بِنَعْظَمَةٍ  
غَلِيلُ الْقُلُوبِ لَا يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ  
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَارِعُهُمْ فِي الْأَمْرِ

[1] Funda incazelo 113.

nawe. Ngalokho bathethelele, futhi ubacelele intethelelo, ubonisane nabo ngezinto; uma sewenze isinqumo, beka ithemba lakho kuAllah: ngoba ngempela uAllah Uthanda labo abathembele kuYena.

**160.** Uma uAllah Enisiza, ake-kho onganinqoba; futhi uma Enihlubuka, ubani organisiza ngemuva kwalokho na? Ngempela yikuAllah lapho ligxile khona ithemba labakholwayo.

**161.** Akasoze umProfethi noma yimuphi abangumkhohlisi, futhi noma ubani okhohlisayo, uzocacisa ngoSuku lokwahlulela ngalokho akhohlisa ngakho. Ngakho-ke yonke imiphefumulo iyothola umvuzo ophelele ngalokho eyakuse-benzela, futhi akekho ozophathwa ngokungemthetho.

**162.** Ingabe uyefana yini lowo olandela intokozo enhle kaAllah, kanye nalowo ozihehela isijeziso sikaAllah, futhi indawo yakhe okuyishihogo, okuwuhambo oluyo-phetha kabuhlungu na?

**163.** Basezigabeni ezahlukene phambi kukaAllah, futhi uAllah Ubona kahle konke abakwenzayo.

**164.** Impela, uAllah Ubenzele umusa abakholwayo, ngokuthu-

فَإِذَا أَعْرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسْكِنِينَ ﴿٦﴾

إِنَّمَا يَنْصُرُ رَبُّهُمْ فَلَا يَغْلِبُ لَهُمْ وَلَمَّا دَخَلُوكُمْ  
فَمَنْ ذَلِكُمْ بِمَا يَنْصُرُكُمْ مِّنْ أَعْدَاهُ وَعَلَى  
اللَّهِ قَلِيلٌ تَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

وَمَا كَانَ لِنَّيِّ آنِ يَعْلَمُ وَمَنْ يَعْلَمُ يَأْتِ  
بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوْلَى كُلُّ نَفْسٍ  
تَّاکِبَسَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٨﴾

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كُنَّ يَأْتِي إِسْخَاطٍ  
مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَرَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ  
الْمَصِيرُ ﴿٩﴾

هُوَ دَرَجَتْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا  
يَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ

mela isiThunywa phakathi kwa-bo<sup>[1]</sup>, esibalandisa ngezimpawu ezibahlambululayo, futhi sibeluleka ngemiBhalo nangobuhlakani, njengoba esikhathini esiphambili babesezonweni eziobala.

فِيهِمْ رُسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَوَاعَدُهُمْ أَيْتَهُمْ  
وَيُنذِكِّرُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  
وَلَمْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ<sup>٦٧</sup>

**165.** Kungani uma nivelelwe yingozi, phezu kokuba nina nigadle kwaze kwakabili (ezitheni), kodwa nithi: «Wokunjani-ke lokhu?» Yithi (Muhammad): «Kubangelwe yinina uqobo». Impela uAllah Unamandla phezu kwezinto zonke.

أَلَيْا أَصَابَتْنَا مُصِيبَةً قَدْ أَصَبَّهُ مُشْلِهَا  
فَلَمْ أَنْ هَذَا نَقْلٌ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>٦٨</sup>

**166.** Futhi lokho kukhahlamezeka enakuthola mhlazane amabutho elwa womabili, kwakungemvume kaAllah, ukuze Azi ngalabo abakhholwayo.

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقْرِيبَةِ الْجَمِيعُونَ فَبِإِذْنِ  
اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ<sup>٦٩</sup>

**167.** Ukuze futhi Azi ngalabo abangabazenzi, (labo) okwathiwa kubo: «Wozani nilwe ngendlela kaAllah, noma nizivikele». Bahti: «Ukube besikwazi ukulwa besizonalndela. Ngalolosuku babeseduze kokuphika inkolo kunokuba babe abakhholwayo. Basho ngemilomo yabo izinto ezazingekho ezhinhliziyweni zabo, nokho uAllah

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ تَأْفَقُوا وَقَبْلَ لَمْ تَعْلَمُوا  
فَاتَّلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا مَالُوا  
لَعْمَ قَتَالًا لَا تَبْغُنُكُمْ هُمُ الْمُكْفَرُ يَوْمَئِنَ  
أَفْرَبُ مِنْهُمُ الْلَّاهِيَانَ يَقُولُونَ إِنَّا فَوْهَمْنَا  
تَالِيَسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِمَا  
يَكْتَمُونَ<sup>٧٠</sup>

[1] Inhlanhla yayehlele abantu phakathi kwamaArab ayengamaKrestu kanye namaJuda, nabantu nje ababelungle ukuthi kube khona isiThunywa phakathi kwabo esizoba cacisela, futhi sibakhipha ezonweni ezabacacela ngemuva kokulandela isiThunywa.

Unolwazi lwakho konke abakuthukusayo.

**168.** Yibo kanye labo ababe-khuluma ngabafowabo ababe-sempini, bona behlezi (emakhaya) bethi: «Ukube basilalela, ngabe abazange babulawe». Yithi (mProfethi): «Kuphebezeni-ke ukufa kunganifici nina, uma nikhuluma iqiniso!».

**169.** Ningacabangi ukuthi bafile labo ababulawelwe endleleni kaAllah. Qha, bayaphila! Bane-sondlo phambi kweNkosi yabo<sup>[1]</sup>.

**170.** Bayathokoza ngenxa yalo-kho uAllah Abaphe kona ngo-musa waKhe. Bathokozela futhi labo abangakabuthwa kanye nabo kepha besasele ngemuva (kulempilo): ngoba abasena kufikelwa ukwesaba, futhi abasenakukhala.

**171.** Bayathokoza ngenxa yomusa nezipho ezivela kuAllah, futhi uAllah Akalichithi iholo labakholwayo.

### ISIGABA18.

**172.** Kulabo abezwe imbizo kaAllah kanye nesiThunywa saKhe ngemuva kokwehlelwa yin-gozi (empini); kulabo phakathi

آلَّذِينَ قَالُوا إِخْرَانُهُمْ وَقَعْدُوا لَوْلَا طَاعُونًا  
مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ أَمُوتَ  
إِنْ كُنُتمْ صَدِيقِينَ ﴿٦﴾

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أَمْوَالًا مِّنْ أَهْيَاءٍ عِنْ دَارِ بَيْهُمْ  
بِرْزَقُونَ ﴿٧﴾

فَرِحِينَ بِمَا أَتَتْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَيَسْتَبِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ  
خَلْفِهِمْ أَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٨﴾

يَتَبَشَّرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ  
قَاتَّ اللَّهَ لَأَصْبِعُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٩﴾

آلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ  
مَا آتَاهُمُ الْقُرْحَ شَلِّ الَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ

[1] Funda isahluko 2:153-157.

kwabo abenza ukulunga, begwema ububi, bazokuba nomvuzo om-khulu<sup>[1]</sup>.

وَأَنْقُوا الْجَرَّ عَظِيمًا ﴿١٧٣﴾

**173.** Labo okwathi abantu bethi: «Ngempela kunebutho elikhulu elizonihlasela, ngakho-ke sab-elani ( impilo yenu ) ». Kepha baqina ukholo lwabo bathi: «Senele thina ngoAllah, futhi UnguMhlensi Ongcono».

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمِعُوا إِلَيْكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا هُنَّا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَمُ الْوَكِيلُ ﴿١٧٤﴾

**174.** Ngakho-ke babuya nomusa kanye nokuhlengwa nguAllah, bengatholanga ngozi: ngokuba balandela okuyintokozo kuAllah-futhi uAllah UyiNkosi yeziphoezingapheliyo.

فَإِنْ قَلَبْتُمُونِي بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ لَمْ يَمْسِسْكُمْ سُوءٌ وَّلَا كُوْرُبٌ رِّضْوَانُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ دُوْلَهُ وَفَضْلُهُ عَظِيمٌ ﴿١٧٥﴾

**175.** Usathane kuphela onokwenza nesabe abahlobo bakhe: ngakho-ke ningabesabi, kepha nesabe Mina uma (ngempela) nikholiwe!

إِنَّمَا ذَلِكُ الشَّيْطَنُ يُخْوِفُ أَقْرَبَيَاءَكُمْ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٦﴾

**176.** Futhi bangakudabukisi labo abazikhethelle nje kalula

وَلَا يَخْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِذَا هُمْ

[1] Kwathi lapho impi yaseUhud isiphehile, abahedeni sebephinda eMakkah; umholi wabo uAbu Sufyan wakhipha izwi lokuthi kubuyelwe emuva ukuze bayocoboshisa wonke amakholwa kungasali nelilodwa. Kwathi ukuba umProfethi akuzwe lokho, wabaxosha ngamabutho amaMuslim ayeselimele kakhulu; aze ayofika eHamra-ul-Asad: okuyindawo engamamayela angu 8 ukusuka eMadina. Kwathi ukuba abahedeni baseMakkah bezwe ukuthi amaMuslim ayabaxosha babaleka, lapho amaMuslim ahlangana neviyo labahwebi elahwebelana nabo ngenzupo enkulu. Kukhulunywa ngalesosigameko evesini 172-175.

ukungakholwa: ngempela, labo abazuMkhubaza uAllah na-kancane. Inhlosa kaAllah, ukubancisha inxenye yakweLizayo; futhi bazothola isijeziso esibuhlungu.

**177.** Impela labo abakhetha ukungakholwa kunokuba bakholwe, abazuMkhubaza uAllah nakancane, kepha bona bazobhekana nesijeziso esibuhlungu.

**178.** Futhi labo abangakholwa bangacabangi ukuthi lelithuba eSibanike lona limnandi kubona: Sibanika kuphela ithuba ukuze bazandisele ububi babo; Kepha bazothola isigwebo esijabhisayo.

**179.** UAllah Akazunishiya makholwa nikulesisimo enikuso njengamanje, Uyoze Ahlukanise okubi kokulungileyo. Akasoze futhi uAllah Anivezela izimfihlo ezingabonwa, kepha uAllah Ukhetha eziThunyweni zaKhe lowo Amthandileyo. Ngakho-ke kholwani kuAllah naseziThunyweni zaKhe; ngokuba uma nikholwa, futhi nigwema ububi nizokuba nomvuzo omkhulu.

**180.** Bangacabangi futhi ukuthi kubahambela kahle labo abancishana ngalokho uAllah abaphe

لَنْ يَضُرُّ اللَّهُ شَيْئاً بِرِبِّ اللَّهِ الْأَكْبَرِ  
لَهُمْ حَطَّافُ الْأَخْرَقَةِ وَلَمْ يَمْعَدْ بِعَظِيمٍ<sup>٥</sup>

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفُرَ إِلَيْهِمْ لَنْ يَعْرُوا  
اللَّهُ شَيْئاً وَلَمْ يَمْعَدْ بِعَدَابٍ أَكْلَمٌ<sup>٦</sup>

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَنْجَلُوا  
لَا فِسْهُمْ لِتَهَاهُمْ لَهُمْ لِيَرْدَادُ الْأَثْمَاءِ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ مُّهِمٌ<sup>٧</sup>

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ  
عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَبْيَزُ الْحَبِيبُ مِنَ الطَّيِّبِ  
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَىٰ الْغَيْبِ وَلَكُنْ  
اللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ رُسِّلَهُ مِنْ يَشَاءُ فَإِنْتُمْ  
بِاللَّهِ وَرِسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقْوَى فَكُلُّمُ  
آجَرٌ عَظِيمٌ<sup>٨</sup>

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِهَا  
أَثْمُهُمُ اللَّهُ مَنْ فَضَّلَهُ هُوَ خَيْرُ الْهُمَّ بَلْ



kona ngomusa waKhe: neze, kuzoba nzima kubona. Lezizinto abazigodlile ziyoba yijoka ezintanyeni zabo ngoSuku lokuvuka (kwabafileyo): ngokuba uAllah UnguMbusi wokusemazulwini nokusemhlabeni; futhi uAllah Wazi kahle konke enikwenzayo.

### ISIGABA19.

**181.** Ngempela uAllah Ubezwile labo abathi: «Impela uAllah Uyisichaka, thina sicebile!» Sizoloba amazwi kanye nokubulala kwabo abaProfethi ngo kungemthe-tho, futhi Sizothi: «Yizwani isijeziingo mlilo»<sup>[1]</sup>.

**182.** Lokhu kungenxa yalokho okuthunyelwe yizandla zenu ngaphambili!» -ngoba ngempela uAllah Akazuziphatha kabi izinceku zaKhe.

**183.** Labo abathi: «UAllah Wasiyala ukuthi singakhola yi-siThunywa size silethe phambi kwethu umhlabelo ozadliwa umlilo (ovela ezulwini)». Yithi (kubona mProfethi): «Ingani kwafika kini-na iziThunywa ngaphambi kwami,

هُوَ شَرٌّ لِّهُمْ سِيِّطَرُوْنَ مَا يَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَكُمْ وِيْدَارُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَيْرٌ

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَّمَنْ أَعْنَى إِيمَانُهُ سَكَنَتْ مَا قَالُوا وَقَتَّلُهُمُ الْأَنْجِيَاءُ بِغَيْرِ حِلٍّ لَا وَقَوْلُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرَبِ

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمُتُمْ أَيْدِيْكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَمْدُ الْيَنْتَأْكَلَانَ لَا تُؤْمِنُ لِرَسُولِهِ حَتَّى يَأْتِيَنَا يُقْرَبَانَ تَأْكُلُهُ النَّازِفُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَإِنَّمَا قُلْنَا هُنَّ قَوْلَمْ

[1] AmaJuda ayegcona umProfethi ngesambulo esahlukweni 2:245 esithi «Ubani lowo ozoboleka uAllah ngalokho okuhle, ukuze Amandisele ngokuphinda phindiwe na?» Lapha ivesi ligquqzuela ngomnikelo wabampofu.

قَاتَلُتُهُمْ إِنْ كُنُتُ صَدِيقُهُمْ ⑥

nezibonakaliso ezicacile kanye  
nalokho okwakufunwa yinina  
uqobo: kungani phonababulala,  
uma nineqiniso?»

**184.** Uma futhi bekuphika-ingani, zaphikwa ngokufanayo izi-Thunywa esikhathini esingaphambi kwakho, ezeza nezibonakaliso ezicacile, namahubo kanye neNcwadi eletha ukukha nya.

**185.** Yonke imiphefumulo iyozwa ukufa. Niyothola futhi umvuzo wenu ngoSuku lokuvuka kuphela. Noma ubani oyokhishwa emlilweni abesefakwa eJannat (Paradesi), uyobe ephumelele ngempela: ngo-kuba impilo yakulomhlaba in-entokomalo ekhohlisayo.

**186.** Ngempela nizovivinywa ngempahla yenu, nani uqobo lwenu, futhi nizozwa okuzonidumaza kulabo abanikwa iNcwadi kuqala kunani, bekanye nalabo abakhonza izithixo. Kepha uma nibekelza, niqaphela ububi lokhoke ngempela kuwumkhawulo ezintweni zonke.

**187.** Khumbulani futhi mhlanane uAllah Enza isivumelwano nalabo abanikwa imiBhalo, ukuze bazise futhi bacacisle isintu, nokuthi bangayifihli. Kepha bona

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُتِبَ رُسُلُّكُمْ  
قَبْلِكَ حَاجَةٌ وَيَا لِيَسِنَتٍ وَالزَّبْرِ  
وَالكِتَبِ الْمُنْبَرِ ⑦

كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ الْبَوْتِ وَإِنَّمَا تُوقَنُ  
أُجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رَحِيمٌ  
عَنِ التَّارِوَادُخْلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ  
وَمَا أَحْيِوْهُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ  
الْغَرْوُرِ ⑧

لَتُبَكُُرُّونَ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ  
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدَى  
كَثِيرًا وَإِنْ تَصِلُّوْا وَتَتَقَوَّلُوْا فَإِنَّ  
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ⑨

وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِنْكُمْ مِنْ يَدِكُمْ أُوتُوا  
الْكِتَبَ لِتُثْبِتُنَّهُ لِلنَّاسِ  
وَلَا تَكُنُمُونَ لَهُمْ قَبْدُودُهُ وَرَاءُهُ

bayiphonsa ngemuva kwemihlane yabo, futhi bazifunela inzuko encane ngayo. Yimbi inzuko abayenzayo!

ظُهُورُهُمْ وَاشْتِرَايْهُ ثَمَنًا قَبِيلًا  
فَيُنَسَّ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٥﴾

**188.** Abangacabangi labo abathokozela izinto abazenzileyo, nabathanda ukutuselwa lokho abangakwenzanga, bangacabangi ukuthi bazosigwema isijeziso: ngoba bazothola isijeziso esibuhlungu.

لَا تَخْبَئْ إِلَّا مَا يَقُولُونَ بِمَا أَتَوْا  
وَلَا يُجْعَلُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا  
فَلَا تَحْسِبْهُمْ بِمَقْارَةٍ مِّنَ الْعَدَابِ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦﴾

**189.** Impela obuka Allah ubuNgameli basemazulwini nasemhlaben, futhi Unamandla phezu kwezinto zonke.

وَرَبِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَوِيرٌ ﴿١٧﴾

### ISIGABA20.

**190.** Bheka! Ekudalweni kwamazulu nomhlaba, kanye nase-mehlukweni wobusuku nemini, lokho ngempela kuyizimpawu kubantu abaqondayo.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَاحْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ  
لِّذِلْكِ الْأَلْيَابِ ﴿١٨﴾

**191.** Labo abakhumbula uAllah bemile, futhi behlezi noma be-cambalele, becabanga ngokudalwa kwamazulu nomhlaba (bethi): «O, Nkosi yethu! Awukudalelanga ize konke lokhu, ubuNgcwele bungobaKho! Uze Usisindise ekuje-zisweni ngomlilo!»

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيْمَانًا وَقَعْدًا  
وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَكَبَّرُونَ فِي خَلْقِ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّنَا مَا  
خَلَقْتَ هَذَا بِأَطْلَالٍ سُبْحَنَكَ فَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩﴾

**192.** «O, Nkosi yethu! Noma ubani Ozomphonsa emlilweni,

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ

ngempela Umhlazile; futhi labo abonayo abazukuba namisizi».

**193.** «Nkosi yethu! Ngempela siyizwile imbizo yalowo osibizela okholweni (ethi): «Kholwani eNkosini yenu!»- ngakho-ke sakholwa. Nkosi yethu! Sithehelele izono zethu, futhi Usule izono zethu, Uthathe futhi imiphefumulo yethu singabalungileyo!»

**194.** «Nkosi yethu! Usiphe futhi lokho Owasithembisa kona ngeziThunywa zaKho, futhi Usihlenge ekuhlazekeni ngoSuku lokuvuka. Ngempela, Wena Awusephuli isthembiso!»

**195.** Inkosi yabo Yabaphendula: «Ngempela Angiwuthathi njengeze umsebenzi wanoma ubani osebenzayo, kungaba owesilisa noma owesifazane: (ngoba) omunye uyinxenye yomunye. Ngakho-ke labo abafudukayo noma abadingiswa emizini yabo, futhi behlushwa endleleni yaMi, belwa noma bebulawa, ngempela Ngizocima izono zabo, bese Ngibagcina ezivandeni (Paradesi) ezinemifula egobhoza ngaphansi kuzo; - okuyisibusiso phambi kukaAllah. Impela phambi kukaAllah kunezi-busiso ezingcono.

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ②

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي  
لِلْأَيْمَانِ أَنْ أَمْنُوا يَرْسِلُهُمْ قَاتِلًا  
رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا  
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ③

رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ  
وَلَا تَغْرِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَأَخْلِفُ  
الْبَيْعَادَ

فَاسْتَجَابَ لَهُرَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضْبِعُ عَمَلَ  
عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ نِسَاءٍ بَعْضُكُمْ مِّنْ  
بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرَجُوا مِنْ  
دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَيِّلٍ وَقَتْلُوا وَقَتْلُوا  
لَا كُفَّارَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخُلَّهُمْ  
جَدِّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِنْ  
عَنْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنٌ  
الْتَّوَابِ ④

**196.** Ungakhohliswa amasu ez-weni alabo abangakholwa.

**197.** Awukunethezeka okuncane-nje ingani isiphetho sabo yisihogo, okuyindawo yesiphetho sobubi!

**198.** Kepha labo abagcina umsebenzi weNkosi yabo, bazoba sezivandeni ezigobhoza imifula ngaphansi kuzo, lapho bayophila kuzo phakade: okuyisipho abemukelwa ngaso wuAllah. Kunokungcono futhi uAllah Akugcinele labo abalungileyo.

**199.** Futhi, bheka, phakathi kwabantu beNcwadi kunalabo abakholwa ngempela kuAllah, nakulokho okwembulwe kinina, nakulokho okwembulwe kubona, bezithoba phambi kukaAllah. Abasoze bakhetha okuyinzuso encane kunemibiko kaAllah. Inzuzzo yabo iseNkosini yabo. Impela uAllah Uyashesha ukunika umvuzo!

**200.** O, nina enikholwayo! Bekezelani nidlule abanye ngokubekezela, futhi nibumbane, ngempela nesabe UAllah ukuze niphumelele.

لَا يَغْرِيَنَّكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِنَّهُمْ لِلْمُلَادِ<sup>٦٧</sup>

مَتَّعْنَا قَلِيلًا شَرًّا مَا وَهُمْ جَهَنَّمُ<sup>٦٨</sup>  
وَإِنَّمَا يَهْدِي إِلَيْنَا<sup>٦٩</sup>

لِكِنَّ الَّذِينَ أَتَقْوَارَبُوهُمْ لَهُمْ جَنَاحُتْ بَخِرِيٍّ  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا إِنْ لَّا مِنْ  
عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْمُلَادِ<sup>٧٠</sup>

وَلَئِنْ مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ يُؤْمِنْ  
بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ  
خُشِعِينَ بِهِ لَا يَشْتَرُونَ بِالْيَتَامَةَ  
قَلِيلًا دُولِيْكَ لَمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رِبِّهِمْ إِنَّ  
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ<sup>٧١</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْلِرُوا  
وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>٧٢</sup>

**SURAH MARYAM-MARIAM**

سُورَةُ مَرْيَمْ

**UKUZALWA KUKAJESU KRESTU.  
KUQALA ESAHLUKWENI  
IAL-IMRAN – ISAHLUKO  
3:45-54.**

Egameni likaAllah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

**16.** Xoxa futhi eNcwadini ngo-Mariya, mhla esuka emndenini wakubo eya endaweni engasempumalanga.

**17.** Wabe esezeitheza kubona, Sase-Sithumela ingelosi<sup>[1]</sup> yeThu kuye, yabonakala kuye kungathi ngumuntu ophelele.

**18.** Wathi (uMariya): «Ngem-pela ngicela ukukhosela koNomusa, (ungasondeli lapha) uma umesaba uAllah!»

**19.** Yathi (ingelosi): «Mina ngiyisiThunywa esivela eNkosini yakho, Ekumisele ukuba nendodana emsulwa».

**20.** Wathi (uMariya): «Ngizoba nendodana kanjani, lokhu indoda ingakaze ingithinte, futhi nginga-ziphethe kabi na?»

**21.** Yathi (ingelosi): «Kuzo-banjalo; iNkosi yakho Ithe: «Kulula lokho kiMina: futhi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ  
وَادْكُنْ فِي الْكِتٰبِ مَا رَأَيْتَ إِذَا نَبَذْتَ مِنْ  
أَهْلَهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ⑤

فَاتَّخَدْتَ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا سَقَارِسَنًا  
إِلَيْهَا رُوْحٌ وَّحَنَّافَتَّبَشَّلَ لَهَا بَشَّرًا سَوْيًا ⑥

قَالَتْ لِتِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ  
كُنْتَ تَقِيًّا ⑦

قَالَ إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهْبَلَكَ  
عِلْمًا زَكِيًّا ⑧

قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي عِلْمٌ وَّلَمْ يَسْتَسْنِي  
بَشَّرٌ وَّلَمْ أَكُ بَعْيَيًّا ⑨

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَنِّي هَيْئٌ  
وَلَنْ يَجْعَلَهُ أَيْهَةً لِلْمُنَاسِ وَرَحْمَةً مِنْهَا وَكَانَ

[1] Saletha isiThunywa sikaMoya (iNgelosi) uGabriyeli.

Simenze nokuthi aze abeyisibonelo esintwini, nomusa ovela kiThina». Lokhu futhi kuwudaba oselunqu-nyiwe».

﴿أَمْرًا مَقْضِيًّا﴾<sup>④</sup>

**22.** Wabe esemkhulelwa, futhi wemuka naye waya endaweni ekude<sup>[1]</sup>.

﴿فَحَمِلْتُهُ فَانْتَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾<sup>⑤</sup>

**23.** Izinhlungu zomsiko, zam-pampisa waze wayofika esiqwini somuthi wesundu. Wakhala: «Maye! Bekungcono ukuba ngafa ngaphambi kwalokhu, futhi ngaba yinto engekho nesebayikhohlwa!»

﴿فَاجَأَهَا الْبَخَاضُ إِلَى حِجْنَعِ التَّخْلُقِ  
قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِنْ قَبْلِ هَذَا وَلَدَتْ سَيِّا  
مَنْسِيًّا﴾<sup>⑥</sup>

**24.** Kwezwakala ngezansana kwakhe (izwi) lithi: «Ungakhali! Ngempela iNkosi yakho iku-phembele umfudlana lapho nge-zansana kwakho.

﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزِنْ قَدْ  
جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيًّا﴾<sup>⑦</sup>

**25.** Nyakazisa isiqu sesihlahla sesundu (usigobele) ngakuwe: sizo qathakisa phezu kwakho amasundu amasha navuthiwe.

﴿وَهُرِزَى إِلَيْكَ بِحِجْنَعِ التَّخْلُقِ تُلْقَطُ  
عَلَيْكَ رُطْبَاجِزِيًّا﴾<sup>⑧</sup>

**26.** «Ngakho-ke yidla, uphuze futhi upholise namehlo akho! Uma kwenzeka ubona umuntu uthi: «Bheka! Ngenze isifungo sokuzila koNomusa, futhi angizukhuluma namuntu namhlanje!»

﴿فَكُلُّهُ وَأَشْرَقُهُ وَقَرِئَ عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ  
الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي أَنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ  
صَوْمًا فَأَفَلَنْ أَكُلُّهُ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾<sup>⑨</sup>

**27.** Wamletha (umntwana) kwabakubo emphethe. Bathi: «O,

﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا لَّا يَحِدُّهُمْ قَالُوا يَعْرِيهُ لَكُنْ

[1] Wasuka kwelaseNazaretha eya eBethlehema, okuyibanga lamamayela angu 71.

Mariya! Impela kuyisimanga lo-khu okulethile!»

جَعْتَ شَيْئاً فِرَّيَا⑤

يَأْخُذْ هُرُونَ نَاكَانَ أَبُوكَ امْرَاسَوْ وَمَا  
كَانَتْ أُلُوكَ بَغِيَا⑥

فَأَشَارَتْ لِلِّيْهِ قَالُوكِيفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ  
فِي الْمَهْدِ صَبِيَا⑦

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَتَدِينَ الْكِتَابَ  
وَجَعَلَنِي بَنِيَا⑧

28. «Dadewabo kaAroni! Uyih-lo bekungesiyyona indoda ekhohla-kele, kanye nonyoko engesiyyena umuntu oziphethe kabi!»

29. Wayesekhomba ( umnt-wana ). Bathi : « Singakhuluma kanjani nosana lusembelekweni na?»

30. Wathi (uJesu): «Ngempela ngiyinceku kaAllah. Ungembulele iNcwadi, futhi Wangenza umProfethi.

31. Wangenza ngabusiseka no-ma kuphi lapho ngikhona, futhi Wangimisela umkhuleko, nokuni-kela uma-nje ngisaphila.

32. Futhi Ungenze ngamnene kumama, ngangabi umthwalo omkhahlamezayo, ngosizi.

33. «Ngakho-ke, ukuthula ma-kube kimi, kusukela osukwini engazalwa ngalo, nangosuku en-gizofa<sup>[1]</sup> ngalo, nangosuku en-giyovuselwa ngalo ekuphileni!»

34. Kunjalo-ke ngoJesu in-dodana kaMariya, ngamazwi eqi-niso, mayelana nalokho abakup-hikisayo.

وَجَعَلْتُ مُدْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنْتُ  
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوْةِ مَا دُمْتُ حَيَا⑨

وَبَرَأْتُ أَبُوالدَقِّ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيَا⑩

وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمِ وُلْدَتُ وَيَوْمَ مَوْتِي  
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَا⑪

ذَلِكَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي  
فِيهِ يَتَرَوْنَ⑫

[1] Funda incazelo 129 esahlukweni 4:159.

35. AkuMfanele uAllah, ukuthi Angazala indodana. Ungcwele Yena! Uma Enquma udaba umane Athi: «Akwenzeke», besekwenzeka!

36. (UJesu wathi): «Ngempela, uAllah UyiNkosi yami, neKosi yenu, ngakho-ke Mkhonzeni. Lena yindlela eqondile».

37. Kepha amabandla ngokwawo abanemibono ehlukahlukene (ngaye): yeka labo abangakholwa, mhlaZane sebelubona ngamehlo loloSuku olunzima!

38. Bezwe, futhi ubabone ngo-Suku abayovela ngalo phambi kweThu! Kanti izoni namhlanje ziphambuке kakhulu.

39. Ngakho-ke baxwayise ngo-Suku olubuhlungu okuyonqunywa ngolo udaba, ngokuba kuze kube manje abanakile, futhi abakholwa (kulo)!

40. Yithina ngempela esiYizndlalifa zomhlaba, nakho konke okukuwo, futhi konke kuyobuyela kiThina.

كَمَا كَانَ يَلْكُو أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَكِيلٍ لَا يَعْلَمُهُ  
إِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَلَمْ يَأْتِ بِهِ قُولٌ لَهُ كُنْ نَيْكُونُ<sup>③</sup>

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّنَا وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا  
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ<sup>④</sup>

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ أَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ  
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ<sup>⑤</sup>

أَسْعِمُهُمْ وَآبْصِرُهُمْ يَوْمَ يَأْتُونَا لَكُنْ  
الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ<sup>⑥</sup>

وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ الْحِسْرِ قَدْ قُضِيَ  
الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ<sup>⑦</sup>

إِنَّا نَحْنُ نَرْثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا  
وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ<sup>⑧</sup>



**SURAH AN-NISA-ISIFAZANE**

سورة النساء

**UJESU AKAZANGE  
ABETHELWE  
ESIPHAMBANWENI, FUTHI  
UNGUMPROFETHI!**

Egameni lika Allah (uNkulunkulu) Onomusa, Onesihawu.

**153.** Abantu beNcwadi bacela (kuwe Muhammad) ukuthi wenze iNcwadi yehlele kubona, esuka ezulwini. Ngempela bacela ku-Mose ngaphambili okukhulu ku-nalokhu, ngoba bathi: «Sikhombise uAllah obala»-lapho umbani wabathatha baphuphutheka, ngenxa yobubi babo. Phezu kwalokho bakhonza ithole (legolide), nanxa izimpawu ezicacile sezafika kubana! Noma sekunjalo Sabathethelela, futhi Sanika uMose amandla acacile<sup>[1]</sup>.

**154.** Senza futhi intaba (yase-Sinayi) yaqonga kunabo mhla wesivumelwano, futhi Sabeluleka: «Ngenani ngesango nikhothame»; futhi Sathi: «Ningaphambuki mayelana nesabathal», futhi Samisa nabo isivumelwano esiqinile.

**155.** Ngokwephula kwabo isi-vumelwano, kanye nokuphambana nemibiko kaAllah, nokubulala kwabo abaProfethi ngo-kungemthetho, kanye nesisho sabo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْلُكُ أَهْلُ الْكِتَابَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ  
كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلَوْا مُوسَى الْكَبِيرَ  
مِنْ ذَلِكَ نَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهَرًا  
فَأَخَذَنَاهُمُ الظِّيْعَةَ بِظِلْيَمِهِمْ ثُمَّ  
اتَّخَذُوا الْوَجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ  
الْبَيْتُ فَعَوَّنَاهُمْ ذَلِكَ وَاتَّبَاعُهُمْ  
سُلْطَانًا مُّبِينًا

وَرَعَنَاهُمْ فَوْقَهُمُ الْطُّورَ يَبِينُّا قَوْمَهُمْ وَقُدْنَا  
لَهُمْ أَدْخَلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ  
لَا تَعْدُوا فِي السَّبِيلِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ  
مِّثَاقًا غَلِيلًا

فِيمَا نَفَضُّهُمْ مِّنْ أَقْهَمْهُمْ وَلَهُمْ بِإِيتِ اللَّهِ  
وَقَلْبَاهُمُ الْأَنْجَى بِغَيْرِ حَقٍّ وَفَوْلَهُمْ قُوَّوبِنَ  
غُلْفَ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِلَفْرِهِمْ

[1] Lesisehlakalo sisesahlukweni 2:55-56.

esithi: Izinhliziyo zethu ziyawa-londa (amazwi kaAllah, asikufuni okuzonezezela). Nembala uAllah sewalala izinhliziyo zabo, ngenxa yokungakholwa kwabo, nokho kuncane abakholwa yikho.

**156.** Futhi ngokuba baphika ukholo, nokuthi bahlambalaza ngoMariya ngendalela esabekayo<sup>[1]</sup>.

**157.** Futhi bathi: «Impela sambulala uMesiya (uKrestu) uJesu indodana kaMariya isiThunywa sikaAllah!» Kepha abambilalanga futhi abambethelanga, kepha kwabonakala engathi kunjalo kubona<sup>[2]</sup>, futhi labo abanomehluko kulokhu bayangabaza ngaye, abanalwazi kulokhu, ngaphandle kokungathekisa nje kuphela, ngokuba, ngempela abazange bambulale.

**158.** Cha, uAllah wamenyusela kuYena, futhi uAllah Unamandla onke Uhlakaniphile.

**159.** Nokho, akukho noyedwa kubantu beNcwadi ongekholve

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَيْلَالًا

وَيَكْفُرُهُمْ وَتَوَلُّهُمْ عَنْ مَرْجِبَةِنَا تَعْظِيمًا

وَقَوْلُهُمْ إِنَّا فَتَنَّا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مُرْيَمَ  
رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فَتَنَاهُ وَمَا أَصْلَبَهُ وَلَكِنْ  
شِئْدَهُ لَهُوَ رَبُّ الْأَنْذِيرِ احْتَلَفُوا فِيْهِ لَكُنْ  
شَكَّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا إِثْبَاعُ  
الظَّرِّينَ وَمَا فَتَنَاهُ يَهُودَةٌ

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ أَيْمَانِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

وَإِنْ مَنْ أَهْلَ الْكِتَابَ إِلَّا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ

[1] AmaJuda athatha uJesu (ukuthula kube kuye) njengomlanjwana, yi-leyondlela abamhlambalaza ngayo; unina uMariya (iNkosi Ibenaye) bamthatha njengomuntu owayengaziphethe kahle.

[2] Wamelwa omunye owayenjengaye. Abanye bathi kwaba nguJudas owaphanyekwayo ngoba wayefana noJesu, futhi kwenzeka lokhu kusebusuku.

مَوْتُهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

فِيظَلِّمُ مَنْ أَذْنَى هَذَا حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ  
طَبِيبٌ أَجْلَتْ لَهُمْ وَيَصِدِّهُمْ عَنْ سَيِّئِ  
اللَّهُ كَثِيرًا

nguye (uJesu), ngaphambi kokuba afe<sup>[1]</sup>; futhi ngoSuku lokuvuka uzobe engufakazi obhekene nabo.

**160.** Ngenxa yokona kwamaJu-da, Sabenqabela kokunye (ukudla) okuhlanzekile okwakuvumelekile kubona (ngaphambili); ngokuba bavimbele iningi endleleni kaAl-lah.

**161.** Nokuthi bathatha inzalo, noma babenqatshelwe, futhi bash-waqa ingcebo yabantu ngobuqili; futhi Silungiselele labo phakathi kwabo abangakholwa isijeziso esi-buhlungu.

**162.** Kepha abanye phakathi kwabo abanolwazi oluphelele, kanye nabakholyo, bakholyo yilokho okwembulelw wena<sup>[2]</sup>, nalokho okwembulwa ngaphambi kwakho, futhi kulabo abagcina umthandazo, nalabo abanikela (izakat) kwabampofu, futhi beholwa kuAllah nasoSukwini lokugcina: abanjaloke labo eSiyobapha umvuzo omkhulu.

وَأَخْذِهِمُ الرِّبْنُوا وَقَدْ نَهَا عَنْهُ وَأَكْلَاهُمْ  
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدَنَا لِلْكُفَّارِ  
مِنْهُمْ حَدَّابًا أَلِيمًا

لِكِنَ الرَّسُوْلُ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ  
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ  
وَالْمُقْرِئُونَ الصَّلُوةَ وَالْمُؤْمِنُونَ الزَّكَاةَ  
وَالْمُؤْمِنُونَ بِإِلَهِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِكَ  
سُؤْتَهُمْ أَجْمَعِيْمًا

[1] Uzofa ekubuyeni kwakhe okwesibili. Lokhu kuchaza isahluko 19:33.

[2] Ukukholwa yiNcwadi iKur'an akusho ukuphika izambulo ezazikhona ngaphambili, ngoba ifakazel lezo ezembulwa. Abafuni beziNcwadi eziNgewe ababeneqiniso kanye nolwazi, bamemukela umProfethi uMuhammad (ukuthula kube kuye) kanye nesambulo ezanaso.

## ISIGABA23.

**163.** Impela Sikwembulele wena (Muhammad) nje ngalokho Sembulela uNowa, naba Profethi emva kwakhe: futhi Sembulela uAbraham, noIshmayeli, noIsaka, noJakobe, naseZizweni zonke, nakuJesus, noJobe, noJona, noAroni, noSolomoni, futhi uDavide Samnika amahubo.

**164.** Futhi Sesikulandisile ngaphambili udaba ngezinye iziThunywa, ezinye futhi asikulandisanga ngazo. KuMose uAllah wakhuluma naye ngqo.

**165.** IziThunywa zaletha izindaba ezimnandi, kanye nezexwayiso, ukuze abantu bangabi nokuziphendulela kuAllah emveni kweziThunywa<sup>[1]</sup>. Impela uAllah Unamandla onke Uhlakaniphile.

**166.** Noma kunjani uAllah (nguYena) Ofakazayo ukuthi lo-kho Akwembule kuwe, Ukwembule ngolwazi laKhe, futhi nezingelosi ziyafakaza, kepha uAllah Ungufakazi Owenele.

[1] Ubuhlakani bukaAllah ukuthi Waletha Waletha iziThunywa phakathi kwethu ezingabantu, futhi zibhekene nesimo esifana naleso esinzima esibhekene naso; ngakho-ke singeze sakwazi ukuseka ubuvila bokucabanga nokudlubulunda kwethu ngokuthi sibeke izaba eziningi.

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ  
وَالْتَّيْمَنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ  
وَرَاسِمِعِيلَ وَلَسْعَقَ وَيَعْقُوبَ  
وَالْكَسْبَاطَ وَعِيلَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ  
وَهُرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَاتَّيْنَا دَادَ ذُورَاتَ

وَرُسُلًا لَّكُمْ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ  
وَرُسُلًا لَّكُمْ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ وَكَمْ  
اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١﴾

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَوْنَ  
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ وَكَانَ  
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٢﴾

لِكِنَّ اللَّهَ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ آنِزَلَهُ  
بِعِلْمٍ هُوَ الْمَلِكُ يَشْهُدُونَ وَكَنَّ  
بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٣﴾

**167.** Ngempela labo abaphika ukholo, futhi bevimbe endleleni kaAllah, balahlekele kude ngempela.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَصْدَوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلَّلُوا أَضْلَالًا بَعِيدًا ﴿٤﴾

**168.** Nalabo abaphika ukholo futhi benze nokubi, uAllah ngempela Akasoze Abathethelela, futhi Akasoze Abaholela endleleni.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَظْلَمُوا أَنَّمَا كُنْتُ اللَّهُ لِيَعْفُرُ أَنَّمَّا وَلَكُمْ هُدُومٌ طَرِيقًا ﴿٥﴾

**169.** Kungaba indlela kuphela eya esihogweni, ukuze bahlale kuso ngonaphakade: futhi kulula lokho kuAllah.

إِلَّا طَرِيقٌ إِلَّا جَهَنَّمَ خَلِيلٌ فِيهَا أَبَدٌ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٦﴾

**170.** O, sintu! IsiThunywa sesifike kinina neqiniso elivela eNkosini yenu: ngakho-ke kholwani kuso, lokho kuzoba ngcono kinina! Kepha uma niphika ukholo, ngempela kungokukaAllah konke okusemazulwini nasemhlabeni, futhi uAllah Wazi konke Uhlakaniphile!

لَيَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءُكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمْتَهِنَّهُ إِلَّا كُمْ وَإِنْ تَكُونُوا قَاتِلِينَ بِلَمْ يَعْلَمُوا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا ﴿٧﴾

**171.** O, bantu beNcwadi! Musani ukwengeza<sup>[1]</sup> (ngamanga) enkolweni iyenu, futhi ningasholutho ngoAllah ngaphandle kweqiniso lodwa. UMesiya (uKrestu) uJesu, indodana kaMariya,

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْدُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمُسِيَّحُ عِيسَى ابْنُ مُرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَقْفَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحُهُ مِنْهُ قَاتِلُوا يَهُودًا لِأَنَّهُمْ

[1] AmaKrestu athi Ujesu nguNkulunkulu, kanti amaJuda athi un-gumlanjwana. Womabili lamaqembu ayakhuzwa ukuthi ayeke ukwengeza ngamanga.

wayeyisiThunywa nje sikaAllah<sup>[1]</sup>, kanye nezwi laKhe Alimemezelu kuMariya, noMoya ophuma kuYena. Ngakho -ke kholwani ku-Allah, naseziThunyweni zaKhe, futhi ningathi: ‘Uziquntathu!'<sup>[2]</sup> Phezani: kuzoba ngcono kinina. UAllah uNkulunkulu Oeydwa kuphela. Ungcwele Yena ngaphezu kokuthi angazala indodana. KungokwaKhe konke okusema-zulwini nasemhlabeni. Wenele futhi uAllah njengoMvikeli.

وَرَسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثالثةٌ إِنَّهُ هُوَ أَحَدٌ  
لَّمْ يَكُنْ لِّلَّهِ إِلَهٌ وَّاَحَدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ  
يَكُونَ لَّهُ وَلَدٌ لَّهُ مَوْلَى السَّمَاوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيْلَانًا

لَنْ يَسْتَكْفِيَ الْمَسِيحُ أَنْ يُكَوِّنَ عَبْدًا لِّلَّهِ  
وَلَا الْمَلِيلَكَةُ الْمُقْرَبُونَ وَمَنْ يَسْتَكْفِيَ  
عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَدِيرُ قَسِيْخَشُورُهُمْ  
إِلَيْهِ جَيْبِيًّا

[1] UAllah Uvumelana nokuthi:

1. UJesu wayeyisiThunywa saKhe.
2. UnguLizwi elamenyezelwa kuMariya (ngokusho koMdali ukuthi kudaleke utho esizalweni sowesifazane; kwasekwenzeka).
3. Waqiniswa ngoMoya oyinNgcwele.
4. AmaJuda namaKrestu mawakholwe eziThunyweni zikaAllah, uJesu noMuhammad njengoba beholwa kwezinye ezabendulela.

[2] UAllah UnguMoya akanasiyu ngoba akabonwa ngamehlo enyama. «Anizange nizwe **izwi laKhe**, anisibonanga **isimo saKhe**. Johane 5:37. Funda futhi isahluko 5:76 kwiKur'an nencazelo.

[3] ...yona lemisenbenzi engiyenzayo, iyangifikazela ukuthi uBaba\* **un-githumile**. Johane 5:36. ...ngokuba ngingafuni eyami intando kepha intando **yongithumileyo**. Johane 5:30.

\* Funda incazelo 139 ngoBaba kanye namadodana. Leligama lichaza isikhundla sobuholi bukaNkulunkulu noma umuntu wesilisa omdala, lisetshenziswe njengesho; uNkulunkulu uYadala akazali, 2:116.

**173.** Ngakho-ke labo abakholyo, benze nokulunga, Uzobanika umvuzo (ophele), futhi Anezezele ngoMusa waKhe; bese-kuthi labo abeyayo, futhi beziqhayisa bona Uzobajezisa ngesijeziso esibuhlungu. Abasoze futhi bamthola onokubavikela, nozobasiza ngaphandle kukaAllah.

**174.** O, sintu! Ngempela sekufike kinina iqiniso elivela eNkosini yenu, futhi Sesinembulule ukukhanya okucacile.

**175.** Kulabo abakholywa kuAllah banamathele kuYena, Uzobemukela emseni waKhe, nangezipo-ho, futhi Abaholele kuYena ngendlela eqondile.

**176.** (O, mProfethi) bafuna kuwe isinqumo ngokomthetho (ngamafa), yithi: «UAllah Uyala ngalabo phakathi kwenu abnagenalo uzalo, noma abazali aba nokudla ifa labo. Uma kungowesilisa ofayo, engenayo ingane enodadewabo, kumele udadewabo athole inxenyefefa. Kanjalo uma kungowesifazane ofayo, engenamntwana, umfowaboo athathe ifa lakhe. Uma enodadewabo ababili, mabathole izinxenyefefa ezimbili kwezintathu efeni lonke. Uma kunabafowabo

فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
فَيُوْقَدُهُمْ أُجُورُهُمْ وَلَا يُزَيِّدُهُمْ فِيْ  
فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْفَرُوا  
وَاسْتَكْبَرُوا فَإِعْنَادُهُمْ عَدَابًا لِّيَسَاءَةِ  
وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَأْ  
وَلَا نَصِيرُهُمْ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ  
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

فَإِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا  
بِهِ قَسَيْدُ حَلَمِهِ فِي رَحْمَةِ مُنْهَى  
وَفَضْلٍ لَّا يَهُدُّ يَوْمَ الْيَقْدَارِ إِذَا  
مُّسْتَقِيمًا

يَسْتَغْفِرُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُغْفِرُكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ  
أَمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْرُجُ قَلْمَهَا  
نُصْفُ مَارْتَكَ وَهُوَ يَرْتَهَا إِنْ لَمْ يُكِنْ لَهَا  
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشَّلْثَنُ مِمَّا  
تَرَكَ مَوْلَانَ كَانُوا إِخْرَجَاهُ بِرَجَالٍ وَنَسَاءً  
فَلَلَّهُ كَمِيلٌ حَظِّ الْأُنْتَيْنِ

يُبَشِّرُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُلُواْ وَاللَّهُ يُحِلُّ شَيْءاً  
عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿٤٣﴾

nodadewabo, owesilisa makathole ngokuphindwe kibili kokutholwe ngowesifazane». UAllah Uyanicacisela ukuze ningaphazami, futhi uAllah Unolwazi ngezinto zonke.



**SURAH AL-MAA'IDA-ITAFULA****UJESU AKASIYENA  
UNKULUNKULU.**

Egameni likaAllah (uNkulunkulu) Onomusa, Onesihawu.

**12.** Futhi uAllah ngempela Wenza isivumelwano nabantwana bakaIsrayeli, lapho seSimisa amakhosi ayishumi nambili phakathi kwabo. UAllah futhi Wathi: «Bheka! Ngikanye nani! Uma nigcina imithandazo, futhi ninikela kwabampofu, nikholwa futhi ezi-Thunyweni zaMi, futhi nizihloniphya, (nizisize) nithseleke uAllah isikweletu esihle. Ngempela ngizosula izono zenu, futhi Nginingenise ezivanden iezigobhoza imifula ngaphansi kuzo. Kepha uma kukhona ophika ukholo ngemuva kwalokhu phakathi kwenu, up-hambukile endleleni esobala!»

**13.** Ngenxa yokwephula kwabo izivumelwano, Sabaqalekisa, futhi Senza izinhliziyo zabo zalukhuni: basusa amazwi lapho ayekhona, futhi bakhohlwa nawumbiko ab bewuthunyelwe. Awusoze futhi wahluleka ukubona ukungethembeki kweningi labo, ngaphandle kwengcosana nje yabo. Kepha ubathethelele, ungabanaki: Impela uAllah Uthanda labo abenza okuhle.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ أَخْذَ اللَّهُ مِنْتَاقَ بَنْيَ إِسْرَاءِيلَ  
وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ أَشْهِى عَشَرَ نَبِيًّا وَقَالَ  
اللَّهُ أَرِنِّي مَعْكُمْ لَئِنْ أَقْمَدْتُمُ الصَّلَاةَ  
وَأَتَيْتُمُ الزَّكُوَةَ وَأَمْنَمْتُمُ بِرُسُلِيَّ  
وَغَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا  
حَسَنًا لَا كُفَّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
وَلَا دُخُلُكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْرِثَهَا  
الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ  
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّيِّئُ

فِي سَانِقْضِهِمْ مِّنْ شَاقِهِمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا  
قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً يُحَرِّفُونَ الْحَكَلَمَ  
عَنْ مَوَاضِيعِهِ لَا سُوا حَاطَّا مِمَّا دُكَرُوا  
بِهِ وَلَا تَرَازَلْتِلَمَعَهُ عَلَى خَلِينَةٍ  
مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ  
قَاعِفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحَهُ اللَّهُ  
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

**14.** Ngokunjalo kwabazibiza: ngama 'Krestu', Senza isivumelwano nabo, kepha seba-khohlwa umbiko ababewuthunyelwe, ngakho-ke Sabhebhe-zela ubutha nenzondo ephakathi kwabo<sup>[1]</sup>, koze kube ngoSuku lokuvuka (kwabafileyo) lapho uAllah Eyobazisa ngalokho ababekwenza.

وَمِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّا نَصْرَى  
أَخْدَنَا مِنْ شَاقِهِمْ فَنَسْوَاهُ طَامِنًا  
ذُكْرُ وَإِيَهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ  
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمِ  
الْقِيمَةِ وَسُوقَ يُبَيْتُهُمُ اللَّهُ  
بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ④

**15.** O, bantu beNcwadi! Sekufike kinina isiThunywa Sethu esembula okuningi ebenikuca-shisile eNewadini, futhi sichitha nokuningi (okungadingeki)<sup>[2]</sup>. Nge - mpela sekufike kinina ukukuhanya okuvela kuAllah, kanye neNcwadi esobala.

يَا أَهْلَ الْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمْ  
رَسُولُنَا يُبَيْنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِنَ  
كُلِّمَتَهُ تَحْفَوْنَ مِنَ الْكِتَبِ  
وَيَعْفُوُ عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ  
مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتَبٌ مُّبِينٌ ⑤

**16.** UAllah Uhola ngayo bonke abafuna okuhle kuYena, Abase endleleni yokuthula nephephile, futhi Ubakhipha ebumnyameni, ngentando yaKhe, Abase ekukhanyeni, Ubaholela futhi endleleni eqondile.

يَهُدِيُّ يَهُهُ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ  
رِضْوَانَهُ سُبْلَ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُمْ  
مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى التُّورِ يَلَذِّبُهُ  
وَيَهُدِيُّهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑥

[1] ...yilowo nalowo kinina uthi: mina ngingoka Pawulu; mina ngingokaApholo (umGriki); mina ngingokaKhefase (umRoma), mina ngingokaKrestu. UKrestu wahlukaniswa yini? 1 KwabaseKorinte 1:12-13.

[2] Umbiko kaAllah Awembulela uMuhammad (ukuthula kube kuye) iKur'an eyiNgcwele, ungowokugcina nozohlunga phakathi kweqiniso namanga.

17. Abakholwa ngempela labo abathi: «Impela uAllah nguKrestu<sup>[1]</sup>, indodana kaMariya». Yithi: «Ubani-ke owaye nokwenza utho kuAllah, uma ngabe Waye hlose ukubhubhisu uKrestu indodana kaMariya, kanye nonina, nabo bonke labo abasemhlabeni na? NgobukaAllah ubuKhosi base-mazulwini nasemkhathini. Wadala lokho Akuthandayo: futhi uAllah Unamandla phezu kwezinto zonke!».

18. AmaJuda kanye namaKrestu athi: «Singamadodana kaAllah<sup>[2]</sup>, kanye nabathandekayo kuYe». Yithi: «Pho kungani, nijeziska ngenxa yezono zenu na?» Cha, ningabantu nje abadalwe nguYe. Uthethelela lowo Amthandileyo, futhi Ajezise lowo Athande ukumjezisa: ngokuba obukaAllah ubuKhosi base-mazulwini nasemhlabeni, kanye nasemkhathini, futhi konke kuyo-phindela kuYena.

19. O, bantu beNcwadi! Manje

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ  
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ  
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ  
الْمَسِيحَةَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمْمَةً وَمَنْ فِي  
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلَا يَلْهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا بِنَهَا يَخْلُقُ  
مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
فَدِيرٌ<sup>(٥)</sup>

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالظَّرِيرِ حَتَّىٰ أَبْنَوُ اللَّهَ  
وَأَجْبَأُوهُ قُلْ فَمَنْ يَعْدِيهِ كُمْبُدُ لَوْلَمْ بِلَ آنْمُ  
بَتَرْمَمْ حَلَقْ يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْزِيزُ  
مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَلْهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَمَا بِنَهَا وَاللَّهُ الْمَصِيرُ<sup>(٦)</sup>

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قُدْحَاءُكُمْ رَسُولُنَا يَسِيرُ

[1] UKrestu ungoweNkosi. Luka 2:26. UKrestu wazalwa. Luka 2:11. Igama elithi Krestu lisho ogcotshiweyo, pho ubani ongagcoba uNkulunkulu na? UNkulunkulu kuperha ogcaba lowo amthandileyo ezi-Thynyweni zaKhe.

[2] Isisho esijwayelekile kumaJuda namaKrestu ukuthi uNkulunkulu unguBaba wabo. Lokho akusho ukuthi abasezugwetshwa ngamacala abo. Mabaphenduke ukuze bathethelelwe. Funda isahluko 5:77.

sekufike isiThunywa<sup>[1]</sup> Sethu kini-na ukuzo nicacisela (izinto), ngemuva kwekhefu (ohleni) lwe-zizThunywa, hleze nithi: «Akufi-kanga isiThunywa kithina nezindaba ezimnandi nomxwayisi»: manje sekufike isiThunywa kinina nezindaba ezimnandi nezexwayiso, ngoba uAllah Unamandla phezu kwezinto zonke.

لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُولِ أَنْ تَهُوَلُوا مَا جَاءَنَا  
مِنْ أَيْشِرٍ وَلَا نَدِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ  
وَنَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤

[1] Funda incazelø 137, kanye nesahluko 3:144.

**SURAH AL-MAA'IDA-ITAFULA****AKANAZO IZIQU****EZINTATHU.**

Egameni likaAllah (uNkulunkulu) Onomusa, Onesihawu.

**67.** O, Sithunywa! Bazise ngokwembulelw wena, kuvela eNkosini yakho: ngokuba uma ungakwenzi lokho, uzobe ungafezanga okuthunywe nguYena. Futhi uAllah Uzokuvi kela<sup>[1]</sup> kubantu: ngempela uAllah Akabaholi labo abangakhola.

**68.** Yithi: «O, bantu beNcwadi! Aninaso isisekelo ngaphandle ko-kuba nigcine iTorah (uMthetho kuMose) ne Vangeli, kanye nakho konke okwembulwe kinina kuvela eNkosini yenu! Impela lokho okwembulelw wena (Muhammad) kuvela eNkosini yakho ku-zokwandisa kwabaningi ukuhlubuka nokungakhola. Kepha ungabi lusizi ngabantu abangakhola<sup>[2]</sup>.

**69.** Ngempela labo abankholwayo (yiKu'ran), abanalabo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلِغْهٍ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ  
رَّبِّكَ وَلَمْ يَأْتِ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدَ رِسَالَتِهِ  
وَاللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ الشَّaiسِ مَنْ أَنَّ اللَّهَ  
لَدَيْهُمْ بِرَبِّهِمُ الْقَوْمُ الْكَفَّارُ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابَ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَقِيقِي  
تُقْرِبُونَ الْتَّوْرِيقَةَ وَالْأَبْيَاضَ وَمَا أُنزِلَ  
إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدُنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ  
مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طَغْيَانًا وَكُفْرًا  
فَلَا تَأْتِسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفَّارِ

إِنَّ الَّذِينَ امْتَنَوا وَالَّذِينَ هَادُوا

[1] UAllah Wasivikela isiThunywa saKhe sawufeza umsebenzi, nanxa kwakunezimpi ezazihlose ukubhuntshisa lomsebenzi. «UmProfethi oya-kukhuluma izwi ngokuziqhenya engameni lami engingamyalanga ukulikhuluma noma ekhuluma egameni labanye onkulunkulu, lowo mProfethi uyakufa. Dut. 18:20. Lokhu kusho ukuthi uAllah angeke amhlenga ezi-theni zakhe.

[2] Lamazwi kaAllah agcwalisa kulawa: «Bheka, lo umiselwe ukuwa nokuvuka kwabaningi kwaIsrayeli nesibusiso esiphikwayo. Luke 2:34.

abangamaJuda, namaSabiya, namaKrestu, noma ubani okholwa kuAllah nasoSukwini lokugcina, enze okuhle, abaseyukwesaba, futhi abaseyukuba lusizi<sup>[1]</sup>.

**70.** Ngempela Senza isivumelwano nabantwana bakwaIsrayeli, futhi Sabathumelela neziThunywa; kuthi jalo uma kuza isiThunywa nalokho abangakuthandi, inxenyen bayiphikisa, kanti ezinye bayazibulala.

**71.** Bacabanga ukuthi futhi abazubekwacala ngokona, bese bevaleka amehlo kanye nezindlebe. Noma kunjalo uAllah Waphendukela kubona (ngoMusa), kepha iningi labo laba yizimpumputhe, futhi liyizithulu. Kepha uAllah Ubona konke abakwenzayo.

**72.** Bayahlambalaza ngempela labo abathi: «Ngempela uAllah nguKrestu indodana kaMariya», kuyilapho uKrestu wathi: «O, bantwana bakwaIsrayeli! Khonzanni uAllah (kuphela), iNkosi yami neNkosi yenu»<sup>[2]</sup>. Futhi lowo obhangqa uAllah nezithixo, uAllah Akazumvumela eParadesi, futhi indawo yalowo izokuba

وَالصُّفَّيْنَ وَالْتَّصْرِيْهِ مَنْ امْنَى بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ صَالَحَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَأَنَّهُمْ يَعْزِزُونَ ④

لَقَدْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا  
إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلُّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ إِنَّمَا  
لَأَهْوَى النَّاسَ مِمَّا فَرِيقَ لَكُلِّ بَنِي  
وَفَرِيقًا يَقْتَلُونَ ⑤

وَحَسِبُوا أَنَّا لَا نَعْلَمُ فِيمَنْ قَعُودُ وَصَمُوادُ  
تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تَمَّ عَمَّا وَصَمُوادِ  
مِنْهُمْ حَمَدَ اللَّهُ بِصِيرَتِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑥

لَقَدْ كَفَرَ الظَّاهِرُونَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ  
ابْنُ مُمِّمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَسُوعُ إِسْرَائِيلُ  
أَعْبُدُ وَاللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّمَا مَنْ يُشَرِّكُ  
بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا أُنْهَى

[1] Funda incazelos yesahluko 2:62.

[2] «Yizwa Israyeli iNkosi uNkulunkulu wethu iNkosi yinje». Marko 12:29.

semllilweni, ngempela labo abonayo abazukuba namsizi!

النَّاطِقُوْلَلْقَلْمِيْلِيْنَ مِنْ آنْصَارِ④

**73.** Abakholwa ngempela labo abathi: «UAllah ungoMunye eziqwini ezintathu; ngokuba akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaKhe Yedwa<sup>[1]</sup>. Uma futhi bengakuyeki abakushoyo, impela isijeziso esibuhlungu sizokwehlela kwabangakholwa phakathi kwabo.

**74.** Kungani bengaphendukeli kuAllah, bacele nentethelelo kuYena na? Ngokuba uAllah Uyathethelela, Unomusa.

**75.** UKrestu indodana kaMariya waye ngesilutho, ngaphandle kokuba yisiThunywa nje. Ziningi ezinye iziThunywa esezadlula ngaphambi kwakhe, futhi nomama wakhe wayethembekile; babedla futhi ukudla bobabili. Bheka ukuthi Siyicacise kanjani imibiko kubona<sup>[2]</sup>, futhi-ke bheka ukuthi badukiswe kanjani (eqinisweni)!

**76.** Yithi: «Ningakhonza yini esikhundleni sikaAllah, okungenamandla okunilimaza, noma okunisiza na? -ngakho-ke uAllah nguYena Ozwayo, Owazi konke!»

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ  
ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنَ الْإِلَهَ إِلَّا هُوَ  
وَإِنَّ لَهُمْ بِهِ وَاعْتِيقُولُونَ لَيَسَّئُ  
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ⑤

أَفَلَا يَتَوَبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ  
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ⑥

مَا الْمُسِيْحُ ابْنُ جَمِيعِ الْرَّسُوْلِ قَدْ دَخَلَتْ مِنْ  
قَبْلِهِ الرَّسُوْلُ وَأُوْلَئِيْكَيْهِ سَكَانِيَّا كُلُّ  
الطَّعَامُ أَنْظُرْتَهُ بِنِيْنَ لَهُمُ الْأَيَّتِ  
ثُمَّ انْظُرْنِيْ بِيُوقَكُونَ⑦

قُلْ أَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ  
لَكُمْ دِرَأً لِّا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ⑧

[1] «Wokhleka eNkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa. Mathewu 4:10. Funda futhi esahlukweni 4:171 uthole nencazelo yakhona.

[2] UAllah Uyasicacisela nasesahlukweni 4:171, ufunde nencazelo 131-133.

77. Yithi: «O, bantu beNcwadi! Musani ukwengeza enkolweni yenu, ngokungelona iqiniso, futhi ningalandeli izinjongo eziyize za-bantu abaphambuka emandulo, asebedukise iningi nabo balahle-kelwa yindlela ekhale».

### ISIGABA11.

78. Baqalekiswa labo aba benga-kholwa phakathi kwa bantwana ba kwaIsrayeli ngomlomo kaDavide, nokaJesu indodana kaMariya: imb-angela yalokho, bahlubuka, bephi-kelela ngokwengeza.

79. Babengakhuzani bona bod-wa ebubini ababebenza: zimbi ngempela izinto ababezenza!

80. Futhi manje ubona iningi labo linabangane kulabo abanga-kholwa. Kubi ngempela lokho okuthunyelwa yimiphefumulo yabo, futhi isijeziso sikaAllah siphezu kwabo; nokuthi bayohlala esijezisweni esibuhlungu njalo.

81. Ngokuba ukube bebekho-liwe kuAllah nakumProfethi, na-lokho Akwembule kuye bebengeke bazikhethela labo njengabangane, (nabavikeli) babo, kepha iningi labo yizoni.

82. Abamandla kakhulu ngo-kuzonda amakholwa esintwini

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْنُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ  
الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوهُمْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلَّوْا  
مِنْ قَبْلٍ وَأَضْلَلُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ  
سَوَاءِ الْبَيِّنِينَ ⑤

لِعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَبْنَائِ إِسْرَائِيلَ  
عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَيَسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَذَلَكَ  
بِمَا عَصَمُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ⑥

كَانُوا لَا يَتَّنَاهُونَ عَنْ مُنِيبِ فَعْلَوْةٍ  
لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ④

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَُّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
لَيْسَ مَا تَرَمَّتْ لَهُمْ أَفْسَهُمْ أَنْ سَخَطَ  
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ  
خَلِدُونَ ⑦

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ يَا لِلَّهِ وَاللَّهِ  
وَمَا أُنْزَلَ إِلَيْهِ مَا أَنْ خَدُوهُمْ أَوْ لِيَأْءِ  
وَلِكُنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسُقُونَ ⑧

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَا وَهُنَّ لِلَّهِ

sonke, ngempela uzothola ukuthi kakhulukazi ngamaJuda, nalabo abakhonza izithixo, bese kuthi uthole ngempela abasondele kakhulu ngothando kwabakholwayo yilabo abathi: «SingamaKrestu». Lokhu kungenxa yokuthi phakathi kwabo kunalabo abazimisele ngo-kufunda, nabangazinakile izinto zasemhlabeni, futhi yingoba benzagiqhayisi<sup>[1]</sup>.

**83.** Uma futhi bezwa okwembulelwe isiThunywa, ubona behelengezelia izinyembezi ngokubona iqiniso. Bathi: «Nkosi yethu! Siyakholwa; silobe phansi njengofakazi».

**84.** Kungenziwa yini ukuthi singakholwa kuAllah, kanye naseqinisweni selifikile kithina, futhi sibe siphokophelele ukuthi iNkosi yethu iSamukele kanye nalabo abalungileyo na?»

**85.** Ngalokho abakushoyo uAllah Wabapha umvuzo weziVande ezigobhoza imifula ngaphansi, okuyikhaya labo laphakade: ngo-

امْنَوْا بِيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا  
وَلَتَجَدَنَّ أَفْرَيْهُمْ مَوْدَدًا لِلَّذِينَ امْنَوْا  
الَّذِينَ قَاتَلُوا إِنَّمَا نَصْرُى ذَلِكَ بِأَنَّ  
مِنْهُمْ قَسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَئِمَّهُمْ  
لَا يَسْتَكِبُرُونَ ﴿٤﴾

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيَ الرَّسُولِ  
تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَقْيَضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا  
عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّمَا فَاعْلَمُنَا  
مَعَ الشَّهِيدِينَ ﴿٥﴾

وَمَا لَنَا لِأَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ  
وَنَظَعُمْ أَنْ يُدْخِلَنَا إِنَّمَا مَعَ الْقَوْمِ  
الصَّالِحِينَ ﴿٦﴾

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا كُلُّوا حَلَالٌ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ

[1] Lamavesi asilandisa ngamaMuslim ayekhosele eAbysiniya (Ethopiya) esuka eMakkah, eholwa nguJafar Talib. AmaArab aseMakkan acela kumbusi kanye namalunga aseAbysiniya ukuthi avunyelwe ukubamba amaMuslim, abuyele nawo eMakkah, ngoba azodunga inkolo yobuKrestu eseAbysiniya. AmaMuslim acelwa ukuba afunde ngoJesu eNcwadini iKr'an eNgcwele. UJafar wafunda isahluko 19 kwiKur'an eyiNgcwele. Bayizwa abaholi baseAbysiniya futhi bahambisana nalenkolo.

kuba unjalo umvuzo walabo  
abenza okulungileyo.

الْمُحْسِنِينَ ⑤

86. Kepha labo abangakholwa,  
futhi bethatha imibiko yeThu  
njengamanga, labo-ke abangane  
bomlilo wesihogo.

وَالَّذِينَ فَرَّوا وَكَدَّ بُوْا يَا يَتَّبَعُونَ أُولَئِكَ

أَصْحَابُ الْجَنَاحِيْوُ ⑥



**SURAH MARYAM-MARIAM**

**UKUHLAMBALAZA UKUTHI  
UNKULUNKULU UMVELIN-  
QANGI WAZALA INDODANA  
ENGUJESU.**

Egameni likaAllah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

**83.** Awuboni yini ukuthi Sithumela osathane kwabangalkholwa, ukuba babaqhubele phambili ngo-kubadida na?

**84.** Ngakho-ke, ungajahi ukubhekana nabo; ngokuba Sibabalela (izinsuku) ezimbalwa nje.

**85.** NgoSuku eSiyoqoqa ngalo abalungileyo phambi konoMusa, beza beyibandla elihle.

**86.** Siholela futhi izoni esihgwani kungathi umhlambi uyophuziswa amanzi.

**87.** Abazukuba namandla ngaloloSuku okukhulumela omunye, ngaphandle kowathenjiswa (nguNkulunkulu) Onomusa.

**88.** Bathi futhi: «(uNkulunkulu) Onomusa Uzele indodana!»

**89.** Ngempela nisho into eye-sabekayo!<sup>[1]</sup>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ عَلٰى الْكُفَّارِ  
تَوَزَّعُهُمْ أَرَجَافٌ

فَلَا يَجِدُ عَيْمَمٍ لِتَأْلِفَنَّ أَمْ عَدَاكَ

يَوْمَ يَخْتَرُ الشَّقِيقُونَ إِلٰى الرَّحِيْمِ وَفَدَّا

وَسُوقُ الْمُجْرِمُونَ إِلٰى جَهَنَّمَ وَرَدَّا

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلٰمَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ  
الرَّحِيْمِ عَهْدًا

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحِيْمُ وَلَدًا

لَقَدْ جِئْنُمْ سَيِّئَاتِهِ

[1] Into ngempela eyesabisayo ukuqokela uMdali uzalo, kanti Yena akazali kepha Uyadala.

90. Ngalokho isibhakabhaka kuthi sisakazeke, nomhlaba uvuthuzeke, nezintaba kuthi azishabale!

نَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَقْطَرُنَ مِنْهُ وَتَسْقَى الْأَرْضُ  
وَيَخْرُجُ الْجَنَّاتُ هَذِهِ ﴿٤٩﴾

91. Ngenxa yesimemezelo sokuthi (uNkulunkulu) Onomusa Unendodana.

أَنْ دَعَوْالرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿٥٠﴾

92. Noma kungavumelani nge-mpela nobuKhulu ( bukaNkulunkulu) Onomusa ukuthi Angazala indodana!

وَالْمَبْيَنُ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَعْنِدُ وَلَدًا ﴿٥١﴾

93. Akukho nesisodwa ezi-dalweni ezesemazulwini nasemhlabeni esingeZukuza (kuNkulunkulu) Onomusa njengenceku.

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي  
الرَّحْمَنِ عَبْدٌ ﴿٥٢﴾

94. Ngempela Uzazi zonke, futhi Uzibale ngesibalo sazo.

لَقَدْ أَحْصَمُهُمْ وَعَدَهُمْ عَدًّا ﴿٥٣﴾

95. Futhi yileyo naleyo (nceku) kuzo, ngoSuku lokuvuka iyo-qondana naYe ngayinye.

وَكُلُّهُمْ أَنِيَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَرِدًا ﴿٥٤﴾

96. Labo abakhholwayo ngempela benze nemisebenzi emihle, (uNkulunkulu) Onomusa Uzobandisela uthando.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاحَ  
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا ﴿٥٥﴾

97. Ngempela Senze (iKur'an) yalula olimini lwakho, ukuze unike labo abagwema ububi izindaba ezimnandi kanye ne-zixwayiso kubantu abanempi-kiswano.

فَإِنَّمَا يَسِّرُنَا بِإِلَيْنَا كَلِيلٌ  
الْمُتَّقِينَ وَشَدَّرَ بِهِ قَوْمًا لَّدًا ﴿٥٦﴾

وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحْسِنُ  
مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ سِمَّ لَهُمْ رَكْزَانٌ

98. Kambe zingaki izizu-kulwane ezingaphambi kwabo eSazibhubhisa, anisatholi noyedwa kubo, noma nizwe amahlebezi ngazo na?



**SURAH AL-AHZAAB-**  
**IZINTLANGANO**

**UYISIBONELO ESIHLE**  
**SOKUZIPHATHA**


Egameni lika Allah (uNkulunkulu) Onomusa, Onesihawu.

**21.** Impela, esiThunyweni si-kaAllah ninesibonelo esihle, kulo-wo ozobuyela kuAllah kanye nasoSukwini lokuGcina, no-khumbula uAllah kakhulu.

**22.** Kwathi lapho amakholwa ebona (iqembu) labahlanganyeli (ebubini) athi: «Yiko lokhu esakuthenjiswa nguAllah kanye nesiThunywa saKhe! - Futhi uAllah kanye nesiThunywa saKhe basitshela iqiniso!» Lokho nje kwagcwala is okholweni lwabo, nentshisekelo yokuzithoba<sup>[1]</sup>.

**23.** Phakathi kwabakholwayo kunamadoda ami ngeqiniso ezi-fungweni zawo ngoAllah: futhi kubona kunalabo asebasifeza ngokufa (besempini), futhi abanye basami kusona, abaguquki futhi nakancane.

**24.** Ukuze uAllah Anikeze um-vuzo abantu beqiniso ngeqiniso labo, futhi ajezise abazenzisi uma kuyintando yaKhe lokho, noma Aphendukele kubona ngentethele-



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَأُّ حَسَنَةً  
لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَآتَيْهُمَا الْأَخْرَوَةَ  
اللَّهُ كَيْبِيرٌ

وَلَكُنَّا مُؤْمِنُونَ الْكَحْرَابَ قَالُوا هَذَا مَا  
وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا  
وَتَسْلِيمًا

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا  
اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهِمْ مِنْ قَضَى تَعْبَةَ وَمِنْهُمْ  
مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا لَهُ بِتَبَدِيلٍ

لِيَعْلَمَ اللَّهُ الصَّابِقُينَ بِصَدَقَتِهِمْ وَيُعَذَّبَ  
الْمُنْفَقِطُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ  
اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

[1] Esahlukweni 2:155-157 besithenjiswe izivivinyo ezinje ngalesi.

lo: ngoba impela uAllah Uyatethelela, Unomusa!

**25.** Kanjalo uAllah Wababuyisel a emuva labo abangakholwa ngenxa yolaka lwabo; abazuzanga lutho oluhle, nokho uAllah Uyabenelisa abakholwayo empini, ingani uAllah Unamandla, Uhloniphekile<sup>[1]</sup>.

وَرَدَّأَنَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُغَيِّبُنَّهُمْ لَمْ يَنْلَوْا  
حَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ أَمْوَالَ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ  
وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا



[1] Kuyoyonke imizamo yezitha zenkolo ezazihlasela amakholwa, ngem-pela uAllah Wabhuntshisa amacebo azo.

**SURAH AL-AHZAAB-**  
**IZINTLANGANO**

**UMPROFETHI WOKUGGINA.**

Egameni likaAllah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

**40.** UMuhammad akasiyena  
ubaba womunye kumadoda apha-  
kathi kwenu, kepha uyisiThunywa  
sikaAllah, nesivalo sobuProfethi,  
futhi uAllah Unolwazi olugcwele  
ngezinto zonke.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِهِ وَلَكِنْ  
رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ  
يَعْلَمُ شَيْءًا عَلَيْهِمَا



**SURAH AL-IMRAAN-**  
**UMNDENI KA IMRAAN**

**UNGUMPROFETHI NJE.**

Egameni lika Allah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

**144.** Ngempela uMuhammad uyisiThunywa nje kuhela, futhi ziningi iziThunywa esezadlula esikhathini esiphambili. Kungenzeka yini ukuthi uma efa noma ebulewe, nifulathele na? Uma kukhona ofulathelayo, lokho akuzuMhlupha uAllah futhi uAllah Uzoklomelisa labo ababongayo.

شَوَّدَهُ الْعَزِيزُ لَنَا

إِشْوَادُهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ  
قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أُوْقِتَ  
أَنْقَلَبُنَّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقُلِبُ  
عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يُضِيرَ اللَّهَ شَيْئًا  
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾



**SURAH AL-SAAF-ISIGABA**

**UJESU WABIKA NGO-AHMAD  
OKUNGELENYE IGAMA LIKA-  
MUHAMMAD.**

Egameni likaAllah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

1. Zonke izinto ezesemazulwini  
nasemhlaben, mazidumise uAllah:  
ngoba nguYena kuhela Ona-  
mandla, Ohlakaniphile!

2. O, nina enikhholwayo! Kun-  
gani nisho izinto, bese ningazenzi  
na?

3. Kuyisinengiso esikhulu pha-  
mbi kukaAllah ukuthi nisho  
into bese ningayenzi!

4. Ngempela uAllah Uthanda  
labo abalwela ukugcina intando  
yaKhe, beyibutho okungathi yisa-  
khiwo esiqinile.

5. Futhi khumbula uMose ethi  
kubantu bakhe: «O, bantu bami!  
Kungani ningihlupha, nibe nazi  
ukuthi ngiyisiThunywa sikaAllah,  
ngithunywe kinina na?» Kwathi  
ukuba baphambuke, uAllah  
wayekela izinhlizyo zabo ukuba  
ziphambuke: ngoba uAllah Aka-  
baholi abantu abaphambukayo.

6. NoJesu futhi indodana ka-  
Mariya wathi: «O, bantwana  
bakwaIsrayeli! Impela ngiyisiThu-  
nywa sikaAllah phakathi kwenu.  
Ngizogcwalisa uMthetho owan-

شَوَّدَ الْمُصْنَعِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَيِّدَ الْجَاهِلِيَّةِ  
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْكَبِيرُ ①

يَا أَيُّهُ الَّذِينَ اتَّوْلَمْتُمْ  
مَا لَأَنْفَعُونَ ②

كَبِيرُ مَقْتَنًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا  
مَا لَأَنْفَعُونَ ③

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ  
مَمَّا كَانُوا بِهِ بُدُّيَانٌ مَرْضُوصٌ ④

وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَعْمَلُونَ لِمَ تُؤْذِنُنِي  
وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي سَوْلُ اللَّهِ الْيَمِينُ فَلَمَّا  
رَأَوُهُ أَزْأَرَهُ اللَّهُ فَلَوْبَهُمْ وَاللَّهُ لَأَهْنَى الْقَوْمَ  
الْفَسِيقِينَ ⑤

وَلَمَّا قَالَ عُيَّنَى ابْنُ مُرْئَةِ يَبِعَى إِنَّ رَأِيَّيْلَ إِلَيْ  
رَسُولِ اللَّهِ الْيَمِينُ مُصَدَّدًا قَالَ مَابَيْنَ يَدَيَّ  
مَنَ الْكَوْرَةِ وَمَبَيْرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ

بَعْدِي أَسْمَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا  
هَذَا سُحْرٌ مِّنْ<sup>①</sup>

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ  
يُنَجِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَأَيْمَنِي  
الْقَوْمُ الظَّلِيلُونَ<sup>②</sup>

بِرِّينَوْنَ لِيُظْفُو اُنُورُ اللَّهِ يَأْفَوْهُمْ وَاللَّهُ  
مُّتَمِّمُ نُورُهُ وَلَوْكَرَةُ الْكَفَّرُونَ<sup>③</sup>

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَرَحْمَةٍ  
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كُلُّهُمْ وَلَوْكَرَةُ الْمُشْرِكُونَ<sup>④</sup>

gendulela, futhi ngilethe nezindaba ezimnandi zesiThunywa esizoza emva kwami, igama laso nguAhmad». Kwathi ebabonisa ngezimpawu ezicacile bathi: «Lena yimilingo ecacile!»

7. Ubani ngempela odlulele ngokona kunalowo oqamba amanga ngoAllah, noma esebi-zelwe kwiIslam<sup>[1]</sup> pho? Nokho uAllah Akabaholi abantu abonayo.

8. Bahlose ukucima ukukhanya<sup>[2]</sup> kukaAllah ngamazwi abo, kepha uAllah Uzogcwalisa ukukhanya kwaKhe, ngisho noma labo abangakholwa bangakuzonda lokho.

9. NguYena Othumele isiThunywa saKhe ngokusihola kanye nenkolo yeqiniso, ukuze igqame ngaphezu kwazozonke izinkolo, gnisho noma labo ababhangqa uAllah nezithixo bangakuzonda lokho.

[1] Igama elithi Islam lisho ukuthobela uSomandla uAllah.

[2] Umbiko ocacile kaAllah.



**SURAH AL- FIL - INDLOVU**

Egameni likaAllah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

1. Awubonanga yini, ukuthi  
iNkosi yakho yabenza njani  
abanikazi bendlovu na?<sup>[1]</sup>

2. Ayizange yini Idunge icebo  
labo elibi na?

3. Futhi Yathumela iqulu lezi-  
nyoni phezu kwabo (uku-  
bahlangabeza).


4. Elabakhanda ngamatshe  
obumba olukhanguliwe.

5. Yabenza baqungquluza kuhle  
kwamakhasi namakhoba adliwe  
ensimini.

[1] Onyakeni ka 570 A.D. (ngemuva kukaJesu), izwe laseYaman la-  
lingaphansi kombuso wamaKrestu aseAbysiniya (Ethopia). Abenkolo  
yobuKrestu babexoshe ababusi abangamaJuda akwaHimyar.

Umholi wamaKrestu kwakungu Abraha Ashram. Kwathi ngokuzibona  
enamandla amakhulu, wayeseholo ibutho ukuze ahlasele amaArab  
aseMakkah; ayeseyeke imfundiso kakhokho wabo uAbraham  
yokukhonza uMdali: kepha amaArab esekhonza izithixo.

Kwathi uAbraha nebutho lakhe kanye nendlovu eyayihamba phambili  
besondela eMakkah, amaArab ebona ukuthi awanakuzivikela esebaleka;  
kwavela iqulu lezinyoni ezabhuntshisa icebo labo. Lesisigameko senzeka  
izinsuku ezimbalwa onyakeni okwazalwa ngawo umProfethi uMuhammad  
(ukuthula kube kuye).



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْمُتَرْكِيفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ  
الْقَنْيَنِ ﴿٦﴾

أَلْمُجَعِّلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٧﴾

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَا يَمِيلٍ ﴿٨﴾

تَرْمِيْهُمْ بِعَجَارٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿٩﴾

فَجَعَاهُمْ كَعَصِّفَاتٍ كُلُّهُمْ ﴿١٠﴾

**SURAH KURAISH -  
AMAKURAISH.**

سُورَةُ قُرْيَشٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِإِلَيْفِ قُرْيَشٍ

الْفَهْمُ رُحْلَةُ الْقِتَّاءِ وَالصَّيْفِ

فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

Egameni likaAllah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

1. Ukuze kulondeke (isizwe)  
samaKuraish<sup>[1]</sup>.

2. Ukulondeka kwabo (ekuh-webeni) ebusika nasehlobo.

3. Ngakho-ke mabakhonze  
(uNkulunkulu) uMnini waloMu-zii<sup>[2]</sup>.

[1] AmaKuraish (Quraysh) kwakuyisizwe esasihlonishwa eArabiya, futhi siwuzalo lukaIshmayeli indodana kaAbraham; nomProfethi uMuhammad (ukuthula kube kubona bonke) wayengowozalo kulesisisizwe.

Sasingabalindi bendlu yenkonzo kaNkulunkulu okuthiwa yiKa'ba, eyamiswa nguAbraham nendodana yakhe uIshmayeli (ukuthula kube kubona). Lendawo eyidolobha laseMakkah yayibusisekile ngalamaphuzu:

(1) AmaKuraysh ayenesithunzi kanye nethonya kwezinye izizwe.

(2) Ayephahlwe ezinye izizwe ngapha nangapha, lokho kuwusizo kuwona mayelana nezohwebo, kanye nokwazana nabanye; okwabangela ukuthi amaKuraysh ahlonipheke futhi enze nenzozo.

(3) AmaArab ayephahle umuzi waseMakkah ayehlala ngokulwa izimpi zemibango, amaKuraysh wona esendaweni ehlionishwayo eNgcwele. Ukuhlonishwa kwawo kanye namathuba ayebangelwa ukuba engabalindi bendawo eNgcwele yaseMakkah. Lokho bekuphiwe nguAllah. Kuleyo minyaka ukuphepha kwakuyinto eyindlala. AmaKuraysh njengabalindi bedolobha laseMakkah, ayenezivumelwano zokuphepha kanye nokuhlengwa ababusi abase mazweni angomakhelwane macala onke: iAsiriya (Syria), Peresiya (Persia), Yaman neAbysiniya (Ethopia). Wonke lamazwe ayehlenga uhwebo lwabo ngezikkhathi zonke zonyaka.

[2] Umuzi yiKa'ba.

4. Okungu Yena Obapha ukudla  
belambil, futhi Obaphephisa  
ovalweni lwezingozi.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُودٍ وَأَمْنٍ  
مِّنْ خَوْفٍ ⑤



## SURAH MA'UWN - UKUSIZA

Egameni lika Allah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

1. Uyambona yini lowo ophika  
inkolo na?

2. Nguyena-ke lowo oxosha  
intandane.

3. Engakukhuthazi ukondliwa  
kwabampofu.

4. Yeka usizi kulabo abathandazo  
yabo<sup>[1]</sup>.

5. Labo abangayinaki imithandazo  
yabo<sup>[1]</sup>.

6. Labo abenzela nje ukuba  
babonwe.

7. Kepha bengafuni nosizo  
(komakhelwane).

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَرْبَيْتَ الَّذِي يَكْنِيْ بِيَالِدِيْنِ

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَوْ

وَلَا يَحْضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمُشْكِنِينَ

فَوْيِلِ الْمُؤْصِلِيْنَ

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَادِيْمٍ سَاهُوْنَ

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ

وَيَمْتَهِوْنَ الْمَاعُوْنَ

[1] Emthandazweni sidumisa uMdali uAllah, futhi sizicelela intethelelo  
kuYe ngokona kwethu, sicelela nalabo asebasishiya intethelelo; okulandelayo ukuphenduka ekoneni: uma singanakile asiguquki ebubini  
nomthandazo wethu ungafaniswa namazwi angasho lutho.

**SURAH KAWTHAR - INALA.**

Egameni likaAllah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

1. Ngempela Sikuphe inala<sup>[1]</sup>.
2. Ngakho-ke thandaza eNkosini yakho, futhi unikele ngomhlabelo (kuyona kuphela)<sup>[2]</sup>.
3. Ngempela okuhlambalazayo yena uyakunqanyulwa.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْلَمُ بِكُلِّ شَيْءٍ ۖ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَلَا تَرْجِعْ

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ أَكْبَرُ ۖ

[1] I-Kawthar umthombo wakweLizayo ongapheliyo ongapheliyo, unikelwe esandleni sikaMuhammad (ukuthula kube kuye). Imfundiso yakhe isinika ulwazi, umusa nokulunga, iqiniso kanye nobuhlakani, amandla ngokomoya okubona okusithekileyo. Funda futhi kuSurah (isahluko) 2:269.

[2] Umhlabelo ugcwalisela ekunqobeni izivivnyo ezifika ekholweni ngezikathhi zonke, njengoba noAbraham (ukuthula kube kuye) wavivinywa ekugcineni kwathiwa anikele ngendodana yakhe uIshmayeli. Ukubulawa kwezilwane akuphelelisiwe uma singayigcini imithetho kaAllah. Funda kuSurah 2:124 naku 2:177.

**SURAH AL-KAFIRUN -**

**ABANGAKHOLWA.**

Egameni lika Allah (Nkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

1. Yithi: «O, nina en-  
ingakholwa!<sup>[1]</sup>

2. «Angikukhonzi lokho en-  
ikuhonzayo.

3. «Futhi nani ningemkhonzi  
lowo engi Mkhonzayo.

4. «Nami futhi angisoze nga-  
kukhonza lokho enikuhonzayo.

5. «Anisoze futhi nani naM-  
khonza engi Mkhonzayo.

6. Ninezindlela zenu enikholwa  
yizo, nami ngineyami engikholwa  
yiyo!».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

وَلَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُكُمْ

وَلَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِي



[1] Labo abangakholwa bacaciswe kahle esahlukweni (surah) 3:18-22.

**SURAH AN-NASR - USIZO.**

Egameni likaAllah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

1. Uma kufika usizo lukaAllah,  
kanye nokunqoba<sup>[1]</sup>.

2. Futhi nawe ubona abantu  
bengena enkolweni kaAllah ngo-  
buningi.

3. Haya-ke indumiso yeNkosi  
yakho, ucele nentethelelo kuYo.  
Ngempela Ihlala Ithethelela (nja-  
lo)<sup>[2]</sup>.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكُمْ نَصْرٌ مُّرْسَلٍ

وَرَأَيْتُمُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ

اللَّهِ أَفْوَاجًاً

فَلَمْ يَجِدُوا لَكُمْ مِّنْ حَلٍّ

كَانَ تَوَابًا

[1] Ukunqotshwa kweMakkah ngaphandle kwegazi, nokuphenduka kweningi labantu bethobela intando kaAllah, kwaba ukwenaba kombiko wokugcina kaAllah wenabela emazweni onke.

[2] UAllah Usifundisa ngomProfethi ukuthi sicele intethelelo njengoba kulotshiwe kuSurah (isahluko) 2:286 naku 3:8-9.

**SURAH AL-MASAD -**

Egameni likaAllah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

**1.** Imisebenzi yezandla zikaAbu Lahab<sup>[1]</sup> izobhujiswa, naye abhujiswe!

**2.** Awuna kumsiza ngalutho umcebo wakhe, kanye nenzozo yakhe yonke!

**3.** Uzosha angqongqe emlilweni ovutha amalangabi!

**4.** Nomkakhe, abe umthwali wezinkuni (zokubasa).

**5.** Umgexo ophothwe ngezintambo zesundu usentanyeni yakhe!

سُورَةُ الْمَسَدِ

إِنَّمَا لِلَّهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

بَئَتْ يَدَيْ أَكْنَى لَهُبٍ وَّتَبَ

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

سَيَصْلِي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

وَأَمْرَأُهُ حَمَالَةُ الْحَطَبِ

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

[1] U-Abu Lahab yisithopho esanikezwu umalume womProfethi, esichaza ukuthi «uyise welangabi». Wayevutha engafuni ukuyizwa indaba ngeIslam (ukuthobela uMdali), ezithandela amasiko abantu bakubo; nomkakhe wayezama ngakho konke ukujivaza umsebenzi womProfethi: uAllah Wembula ngesiphetho sakhe kanye nomkakhe.

**SURAH IKHLAS -  
UBUMSULWA**

سُورَةُ الْإِخْلَاصِ

Egameni likaAllah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

1. Yithi: «Yena uAllah (uNkulunkulu) Munye vo<sup>[1]</sup>.
2. «UAllah, Umingonaphakade».
3. «Akazali, futhi Akazalwanga».
4. «Futhi Angefaniswe Yena noyedwa».

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

اللّٰهُ الصَّمَدُ

لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُواً أَحَدٌ

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُواً أَحَدٌ

[1] U-Allah yedwa Ongenasiqalo nasiphetho, uYena Odalayo nowengamele konke, Owazi konke, uSomandla Ongasizwa kepha zonke izidalwa zibe zidinga usizo lwaKhe, esiMkhothamelayo nozosahlulela emisebenzini yethu.

**SURAH AL-FALAQ - UKUSA**

Egameni likaAllah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

1. Yithi: «Ngicela ukukhosela eNkosini yokusa<sup>[1]</sup>.

2. Ukuqhelelana nobubi bezinto Ezidalile.

3. Nasebubini lapho ubumnya-ma banda kakhulu.

4. Nasebubini (babelumbi) abaphephetha amafindo (bethakatha).

5. Nasebubini balowo onomona lapho evukwa umona<sup>[2]</sup>.

**سُورَةُ الْفَلَقِ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

مِنْ شَرِّ رَبِّ الْخَلْقِ

وَمَنْ شَرِّعَ لِغَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

وَمَنْ شَرِّعَ لِتَنْبِيَتٍ فِي الْعُقَدِ

وَمَنْ شَرِّحَ لِأَسِدٍ إِذَا حَسَدَ

[1] Intathakusa yilapho kugudluka amathunzi amnyama.

[2] Ubuthakathi abufuneki, kanjalo abanye bathakatha ngokufisela abanye amashwa; befisa ukuthi izinto zingabahambeli kahle abanye. Funda futhi kuSurah 2:102.

**SURAH AN-NAS - ISINTU**

Egameni lika Allah (uNkulunkulu)  
Onomusa, Onesihawu.

1. Yithi: «Ngicela ukukhosela eNkosini yesintu,
2. «Umbusi wesintu,
3. «UNkulunkulu wesintu,
4. «Ukusuka ebubini (bukasathane) umnyenyeyezi (wobubi) abesededa,
5. Lowo onyenyeza ezifubeni abantu,
6. «Phakathi kwama Jinni (imimoya) nabantu»<sup>[1]</sup>.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْكَوْسِ

مَلِكِ الْكَوْسِ

إِلَهِ الْكَوْسِ

مِنْ شَرِّ الْوَسَوَاسِ الْخَنَّاسِ

الَّذِي يُوْسُوسُ فِي مُدُورِ الْكَوْسِ

مِنِ الْجُنَاحِ وَالْكَوْسِ

[1] AmaJinni yimimoya enobuchwepheshe okuziguqula isimo noku-khohlisa abantu, azenza kungathi awumoya omuhle kanti akunjalo. Asebenza ngabantu, ezilwaneni, kanye nasezintweni ezimilileyo. «Usobani bani unomoya omubi». «Kunemimoya emibi kulendawo». «Usebenzisa imithi emibi». Zonke lezizisho siyazazi. Usathane naye uwela ohleni lwavo amaJinni. Akhona amanye alungileyo amaJinni, kepha imvamisa anobuqili.

## UMBIKO WE-KUR'AN

Ngempela uNkulunkulu wenu nguNkulunkulu munye vo, akuna Nkulunkulu ngaphandle kwaKhe. Unomusa, Unesihawu. (I-Kur'an eyiNgcwele 2:163).

U-Allah! Akukho Nkulunkulu ngaphandle kwaKhe, Ophilayo njalo, njalo, Ongonaphakade. Akozeli futhi Yena Akalali. KungokwaKhe konke okusemazulwini nasemhlabeni. Ubani ongakhulumela omunye kuYena ngaphandle kwemvume yaKhe na? Wazi okwakukhona ngaphambili, nokungemuva kwazo (izidalwa), lapho zingahaqe lutho zona elwazini IwaKhe, ngaphandle kwalokho okuyimvume yaKhe. Isihlola sobuKhosi baKhe songamele amazulu nomhlabo, futhi Akakhathazwa ukukulondoloza konke: futhi Yena Uphakeme Mkhulu. (I-Kur'an eyiNgcwele 2:255).

Ngempela ingekaAllah impumalanga nentshonalanga, futhi noma ngabe uphendukela ngakuphi, uphambi kobuso bukaAllah khona lapho. Bheka! UAllah Undawo zonke, Wazi konke kabanzi. (I-Kur'an eyiNgcwele 2:115).

UnguMdali wamazulu nomhlabo, futhi uma Emisa udaba oluthize Uyaye Athi: «Yenzeka!» -besekwenzeka. (I-Kur'an eyiNgcwele 2:117).

Wembula kuwena (Muhammad) umbhalo ngeqiniso, ofakazela lokho obekukhona ngaphambili; futhi Wembula iTorah (umthetho kuMose), neInjil (iVangeli kuJesu), ngaphambi kwalokhu, ukuze kuholwe isintu, futhi Wembula amandla okuhlunga (phakathi kokuhle nokubi). (I-Kur'an eyiNgcwele 3:3).

O, nina enikholwayo! Ngenani kubuIslam (ukuthobela uAllah) ngokuphelele, futhi ningalandeli ezinyathelweni

zikaSathane, ngoba, ngempela uyisitha senu esisobala. (I-Kur'an eyiNgcwele 2:208).

Kepha uma nihlehla ngemuva kokufika kombiko ocacile kinina, nazi-ke ukuthi uAllah Unamandla, Unobuhlakani. (I-Kur'an eyiNgcwele 2:209).

O, nina enikholwayo! Kungani nisho izinto, bese ningazenzi na? (I-Kur'an eyiNgcwele 61:2).

Kuyisinengiso esikhulu phambi kukaAllah ukuthi nisho into bese ningayenzi! (I-Kur'an eyiNgcwele 61:3).

Futhi khumbula uMose ethi kubantu bahke: «O, bantu bami! Kungani, ningihlupha, nibe nazi ukuthi ngiyisiThunywa sikaAllah, ngithunywe kinina na?» Kwathi ukuba baphambuke, uAllah wayekela izinhliziyo zabo ukuba ziphambuke: ngoba uAllah Akabaholi abantu abaphambukayo. (I-Kur'an eyiNgcwele 61:5).

NoJesu futhi indodana kaMariya wathi: «O, bantwana bakwaIsrayeli! Impela ngiyisiThunywa sikaAllah phakathi kwenu. Ngizogcwalisa uMthetho owangendulela, futhi ngilethe nezindaba ezimnandi zesi-Thunywa esizoza emva kwami, igama laso nguAhmad.» Kwathi ebabonisa ngezimpawu ezicacile bathi: «Lena yimilingo ecacile!» (I-Kur'an eyiNgcwele 61:6).

آية	رقم الصفحة	رقمها	السورة
	١	١	الفاتحة
	٢	٢	البقرة
	٨٣	٣	آل عمران
٤٠-٤٦	١٢٨	١٩	مرثيم
١٧٦-١٥٣	١٣٢	٤	النساء
١٩-١٢	١٤٠	٥	المائدة
٨٦-٦٧	١٤٤	٥	المائدة
٩٨-٨٣	١٥٠	١٩	مرثيم
٢٥-٢١	١٥٣	٣٣	الأحزاب
٤٠	١٥٥	٣٣	الأحزاب
١٤٤	١٥٦	٣	آل عمران
٩-١	١٥٧	٦١	الصف
	١٥٩	١٠٥	الفيل
	١٦٠	١٠٦	قمرش
	١٦٢	١٠٧	الماعون
	١٦٣	١٠٨	الكوثر
	١٦٤	١٠٩	الكافرون
	١٦٥	١١٠	التصر
	١٦٦	١١١	المسد
	١٦٧	١١٢	الإخلاص
	١٦٨	١١٣	الفلك
	١٦٩	١١٤	الناس

<b>SURAH</b>	<b>ISAHLUKO</b>	<b>No.</b>	<b>IKHASI No.</b>	<b>VESI</b>
Surah Fatiha	Ukuvulwa	1	1	
Surah Baqarah	Inkomazi	2	2	
Surah Al-Imraan	Umndeni ka Imraan	3	83	
Surah Maryam	Mariam	19	128	vesi 16-40
Surah An-nisa	Isifazane	4	132	vesi 153-176
Surah Al-Maa'ida	Itafula	5	140	vesi 12-19
Surah Al-Maa'ida	Itafula	5	144	67-86
Surah Maryam	Mariam	19	150	vesi 83-98
Surah Al-Ahzaab	Izintlangano	33	153	vesi 21-25
Surah Al-Ahzaab	Izintlangano	33	155	vesi 40
Surah Al-Imraan	Umndeni ka Imraan	3	156	vesi 144
Surah Al-Saaf	Isigaba	61	157	vesi 1-9
Surah Al-Fil	Indlovu	105	159	
Surah Quraysh	AmaKuraysh	106	160	
Surah Al-Ma'uwn	Ukusiza	107	162	
Surah Al-Kawthar	Inala	108	163	
Surah Al-Kaafirun	Abangakholwa	109	164	
Surah An-Nasr	Usizo	110	165	
Surah Al-Masad	Al-Masad	111	166	
Surah Al-Ikhlas	Ubumsulwa	112	167	
Surah Al-Falaq	Ukusa	113	168	
Surah An-Naas	abantu	114	169	

إِنَّ وَزَارَةَ الشُّؤُونِ إِلَاسْلَامِيَّةَ وَالْأَوْقَافَ وَالدِّعْوَةِ وَالإِرشَادِ

فِي الْمَلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ

الْمُشْرِفَةَ عَلَى مَجْمَعِ الْمَلَكِ فَهَذِهِ

لِطَبَاعَةِ الْمُصَحَّفِ الشَّرِيفِ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ

إِذْ يَسِّرُهَا أَنْ يُصْدِرَ الْمَجْمَعُ هَذِهِ الْطَّبْعَةَ مِنْ تَرْجِمَةٍ مَعَانِي آيَاتٍ مُحْتَارَةٍ

مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِلُغَةِ الرَّوْلُو

سَأَلَ اللَّهَ أَنْ يَنْعَمَ بِهَا النَّاسُ


وَأَنْ يَجْعَلَهُ

خَاتِمُ الْحُكْمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ الْمَلَكَ فَهَذِهِ نَسْبَةُ الْعِزَيزِ الْمُنْعَوذِ

أَحْسَنَ الْجَرَاءِ عَلَى جُهُودِهِ الْعَظِيمَةِ فِي نَسْرِكَاتِ اللَّهِ الْكَرِيمِ

وَاللَّهُ وَلِي التَّوْقِيقِ

Ungqongqoshe wezinqubo zeIslam neze waqf ne dawah  
wase Saudi Arabia  
ohlola I(printing press ye nkosi uFahd)  
yokubhala Ikoran engcwele eseMadina Munawwarah  
iyathokoza ngokundlulisa lengcazeloyama vesi akhethiwe kwi Koran  
eyingewelesngolwimi lesi Zulu  
Sicela umdali ukuthi asize ngayo isintu nokuthi avuze  
(umnaakekele wama mosque amabili angcwele)  
Ngokuhle inkosi Fahd bin Abdul Aziz umndeni ka Saud  
Ngokuzinikela kwakhe ekundluliseni izwi lika Allah  
elingcwele  
UAllah onamandla Ezinto zonke



حقوق الطبع محفوظة  
المجمع الملكي بهذيل طباعة المصحف الشريف

ص.ب ٦٣٦ - المدينة المنورة



Amalungelo agciniwe u didiyelo  
lwe NKOSI u FAHD loku  
shicilela kwe KORAN engcwele  
P.O.BOX 6262 Madinah munawarah  
Kingdom of SAUDI ARABIA

ح) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤١٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ترجمة معاني آيات مختارة من القرآن الكريم / ترجمة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة .

٢٠٨ ص ، ٢١×١٤ سم

(النص بلغة الزولو)

ردمك : ٩٩٦٠-٧٧٠-٨٧-٧

١- القرآن - تراجم أ - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (مترجم)

١٨/٠٤٣٦

٢٢١،٤٩ ديوبي

رقم الإيداع : ١٨/٠٤٣٦

ردمك : ٩٩٦٠-٧٧٠-٨٧-٧



ردمك : 7-87-770-9960

(1) (6) 31د/4000

هذا الكتاب منشور في



I KUR'AN EYINGCWELE  
INCAZELO  
YAMA VESI AKHETHIWE  
NGESI ZULU